https://ataunnabi.blogspot.com/

قرآن پاک اور بخاری و مسلم کی روشنی میں

علمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

http://t.me/Tehqiqat

پروفیسر احمد رضا خان

تحریکِ مطالعہ قرآن

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قرآن پاک اور بخاری و مسلم کی روشنی میں

علمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

از

پروفیسر احمد رضا خان
گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور

http://t.me/Tahqiqat

زیر اہتمام

تحریکِ مطالعۂ قرآن

المرکز الاسلامی والٹن روڈ لاہور

0322-4280455

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جملہ حقوق بحق مصنف وتحریکِ مطالعہ قرآن محفوظ ہیں

نام کتاب	:	علمِ مصطفیٰ ﷺ
تصنیف	:	پروفیسر احمد رضا خاں
تعداد طباعت چہارم	:	1000
مطبع	:	جے ایم آرٹ پریس لاہور
قیمت	:	220 روپے
سنِ اشاعت	:	جولائی 2012ء

ملنے کے پتے

☆ جامعہ المرکز الاسلامی مین والٹن روڈ لاہور کینٹ، 0322-4677266

☆ نعیمی کتب خانہ، الحمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ 40 اردو بازار لاہور

042-37248927

☆ گنج بخش کتب مارکیٹ نزد دربار داتا صاحب لاہور

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حسنِ ترتیب

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
01	انتساب	15
02	مقدمہ از مفسر قرآن سید ریاض حسین شاہ	17
03	نعت ....ذکر نعمت	20
پہلا باب	قرآن مجید اور انبیاء کرام علیہم السلام کا علمِ پاک	23
05	اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے	25
06	حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا گیا	25
07	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسیع علم و مشاہدہ عطا کیا گیا	27
08	اور......مافی الرحم......کا غیبی علم بھی عطا ہوا	28
09	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا گیا	28
10	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا گیا	31
11	حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم غیب سکھایا گیا	32
12	حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے علم فی الرحم کا ثبوت	34
13	یہ غیبی علم حضرت مریم کو بھی عطا ہوا	35
14	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا گیا	35
15	لوح محفوظ کی تمام تفصیل قرآن میں ہے	36
16	قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے	37
17	قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟	38

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

18	حضور ﷺ کو خود رحمٰن نے قرآن سکھایا	38
19	قرآنی علوم کی وسعت وجامعیت کی جھلکیاں	39
20	حضور ﷺ کے علم پاک کا مزید بیان	40
21	علم غیب کی عطا فضل عظیم ہے	40
22	اور حضور ﷺ غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں	41
دوسرا باب	افراد کے اعمال اور دلوں کی دنیا کا علم	43
24	"انا شهيد عليكم" کی ایمان افروز تشریح	45
25	لوگوں کے اعمال اور حضور ﷺ کا علم	48
26	حضور ﷺ کا آگے پیچھے یکساں دیکھنا	48
27	نہ خشوع ہے مخفی، نہ رکوع پوشیدہ	49
28	دل کی بات جان لی حضور ﷺ نے	51
29	دل کا وسوسہ بھی آپ ﷺ کی نظر میں ہے	53
تیسرا باب	دور ونزدیک یکساں دیکھنا	55
31	موتہ کا میدان مدینہ میں دیکھا	57
32	دیوار تو دیوار، سوراخ بھی دیکھ لیا	59
33	نظر کا سفر، مدینہ سے حبشہ	61
34	مکہ میں شہید ہونے والے کا مدینہ میں تذکرہ	62
35	ایسی سماعت پر لاکھوں درود، ایسی بصارت پہ لاکھوں سلام	62
36	اِدھر منافق مرا، اُدھر حضور ﷺ نے خبر دے دی	63
37	کہاں فارس، کہاں مدینہ	63

http://t.me/...

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

38	ساری زمین .... نگاہ نبی ﷺ میں	64
چوتھا باب	"ما فی غدٍ ماذا تکسب غداً اور ما فی الارحام" کا علم	67
40	یہ علم تو فرشتے کو بھی حاصل ہے	69
41	فرشتے کو رزق اور انجام بھی معلوم ہے	69
42	کل کیا ہوگا اور علی رضی اللہ عنہ کل کیا کریں گے؟	71
43	مستقبل کی باتیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ	73
44	حضور ﷺ کا علمِ پاک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	74
45	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصائب کا علم	75
46	برسوں بعد ہونے والے واقعہ کا علم	77
47	حضور ﷺ کا مستقبل کے مجاہدین کو دیکھنا	78
48	"انصار کی حق تلفی ہوگی"	79
49	"اے جابر! عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں گے"	80
50	یہ اُمّت قریشی لڑکوں کے ہاتھوں برباد ہوگی	81
51	اہلِ حدیث عالم وحید الزماں کا بیان	82
52	ما فی غد کا تفصیلی علم	84
53	مستقبل کی سیاست بھی حضور ﷺ کی نظر میں ہے	85
54	مسلمان کہاں کہاں لڑیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟	86
55	مستقبل میں ایسا بھی ہوگا	86
56	اور ایسا بھی ہوگا	86
57	ادھر فتنہ ہے	87
58	شقاوت اور سنگ دلی مشرق میں ہے	87

https://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

59	کفر کا گڑھ مشرق میں ہے	87
60	مشرق سے شیطان کا سینگ نکلے گا	88
61	مشرق سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے	88
62	حضور ﷺ کی دعائے برکت سے محروم رہنے والا یہ علاقہ کہاں ہے؟	89
63	حضور ﷺ نے قبیلوں کے نام بھی بتادیئے	90
64	''اہلِ حدیث'' عالم مسعود عالم ندوی کا بیان	91
65	مشرق کے ان لوگوں کی خاص نشانی کیا ہے؟	91
66	گستاخانِ رسول کے خارجی گروہ کی نشان دہی	92
67	خارجیوں کی ایک نشانی	93
68	خارجیوں کی ایک اور نشانی	93
69	گستاخ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر	93
70	خارجیوں کی خاص عادت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے	94
71	قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟	95
72	سرزمین حجاز سے آگ ظاہر ہوگی	95
73	قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا	96
74	قحطان کا ایک شخص لوگوں کو لاٹھی سے ہنکائے گا	97
75	سرخ چہرے، چپٹی ناک اور چھوٹی آنکھوں والوں سے قتال ہوگا	97
76	یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے	97
77	قیامت سے پہلے جہجاہ نام کا بادشاہ ہوگا	98
78	قیامت سے پہلے تیس دجال اور کذاب آئیں گے	98
79	ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے	98

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

80	حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے اور دجال کو بھی	99
81	دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا	99
82	قیامت کی خاص نشانیاں	99
83	حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے	100
84	کتنا تفصیل سے بتایا ہے میرے حضور ﷺ نے	100
5واں باب	موت کے ...... وقت، جگہ اور کیفیت ...... کا علم	105
86	کل کون کون قتل ہوگا؟	107
87	وحید الزماں صاحب کا تبصرہ	107
88	حضور ﷺ نے نام لے لے کر کافروں کے مرنے کی جگہ بتائی	107
89	”بیٹی! سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا“	108
90	ازواج میں سب سے لمبے ہاتھوں والی پہلے فوت ہوگی	109
91	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے آگاہ فرمادیا	111
92	حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے وصال سے آگاہ فرمادیا	112
93	حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے آگاہ فرمایا	112
94	”تم مدتوں زندہ رہو گے“	113
95	باقی ارض تموت کے علم کا ایک اور واقعہ	114
96	کون کیسے فوت ہوگا؟	114
97	حضور ﷺ تو حضور ﷺ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم بھی جانتے تھے	117
[illegible]واں باب	عالمِ برزخ اور مقاماتِ آخرت کا علم	121
99	حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا	123
100	حضور ﷺ نے قبروں میں ہونے والا عذاب دیکھ لیا	123

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

نمبر	عنوان	صفحہ
101	''میں قبروں کا عذاب سنتا ہوں''	124
102	مقاماتِ آخرت کا ایسا علم، اللہ اللہ!	125
103	''فاطمہ (رضی اللہ عنہا)! تم جنتی عورتوں کی سردار ہو''	126
104	حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کیلئے جنت میں موتیوں کا محل ہے	126
105	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخرت میں بھی حضور ﷺ کی زوجہ ہیں	127
106	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا	127
107	حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنتی محل بھی دیکھا	128
108	یہ دس صحابہ (رضی اللہ عنہم) جنت میں جائیں گے	129
109	''ثابت رضی اللہ عنہ! تم جہنمی نہیں، جنتی ہو''	129
110	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اہل جنت میں سے ہیں	130
111	حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جنت میں چلنا اور حضور ﷺ کا سننا	131
112	حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں	131
113	حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنتی رومال	131
114	شرکاءِ بدر رضی اللہ عنہم سب جنتی ہیں	132
115	سب کے سب اصحابِ شجرہ جنتی ہیں	132
116	حسنینِ کریمین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں	132
117	جنت میں حضور ﷺ کے ہمسائے	132
118	حضور ﷺ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں اڑتے دیکھا	132
119	یہ شخص جہنمی ہے	133
120	سوال کرنے والے! تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے	134
121	(تم جس کو شہید کہتے ہو) ''میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے''	134

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

122	جنت اور جہنم میں داخل ہونے والوں کا تفصیلی علم	135
7واں باب	نہ جنت ہے مخفی، نہ دوزخ ہے اوجھل	137
124	تفصیلاتِ محشر اور حضور ﷺ کا علمِ پاک	139
125	محشر کی مٹی کا رنگ	139
126	محشر کے دن لوگوں کے تین گروہ	139
127	محشر کے دن لوگ کس حالت میں ہوں گے؟	139
128	لوگ روزِ محشر پسینے پسینے	140
129	اللہ تعالیٰ اور کافر کے درمیان کیا گفتگو ہوگی؟	140
130	حوضِ کوثر کی تفصیلی معلومات	140
131	تفصیلاتِ جنت اور حضور ﷺ کا علمِ پاک	141
132	جنت کے درخت کا ایسا طویل سایہ	141
133	جنت کا خوبصورت خیمہ	141
134	جنت کی عورت کیسی ہے اور جنت کا دوپٹہ کیسا ہے؟	141
135	جنت کی مٹی کا رنگ کیسا ہے؟	142
136	جنت کے دروازوں کی تعداد	142
137	جنت کی خوشبو	142
138	جنت کے درجے	142
139	جنت والوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟	143
140	اہلِ جنت کے کھانے پینے کی مزید تفصیل	143
141	جنت کے دریاؤں کے نام	143
142	اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے کیا کلام فرمائے گا؟	143

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

143	جنت کا جمعہ بازار اور اہلِ جنت کا حسن و جمال	144
144	جنت کی دیگر نعمتیں	144
145	جنتیوں کی سدابہار جوانی	145
146	جنت کی خوبصورت حوریں	145
147	جنت میں کھیتی باڑی کرنے والا	145
148	جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا	146
149	تفصیلاتِ جہنم اور حضور ﷺ کا علم پاک	147
150	جہنم کی آگ	147
151	آگ کی ستر ہزار لگامیں	147
152	جہنم کی گہرائی	147
153	کافر کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ	148
154	کافر کی داڑھ	148
155	جہنم کا ہلکا ترین عذاب کیا ہوگا؟	148
156	یہ جنت اور جہنم ......سب کچھ حضور ﷺ نے دیکھا ہوا ہے	148
157	آپ ﷺ نے جنت اور جہنم کو اتنا قریب سے دیکھا کہ......	149
8 واں باب	جو چاہو پوچھ لو میرے حضور ﷺ سے	153
159	قیامت تک کی چیزوں کا تفصیلی بیان	155
160	اول تا آخر کا سارا علم	155
161	بحرِ علم کی وسعتیں	156
162	اور وہ غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں	156
163	علم کی بٹتی ہے خیرات مدینے میں	156

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

164	"مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا"	157
165	اگر مگر کے رستے بند	157
نواں باب	حضور ﷺ کے علم پاک کی برکتیں	161
167	"اور اسلام میرے دل میں سما گیا"	163
168	حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا دلچسپ واقعہ	163
169	غیب کا بیان سنا اور اسلام کی گواہی دے دی	165
170	باذان (رضی اللہ عنہ)! تیری عظمت کو سلام	166
171	عتاب اور حارث پکار اٹھے کہ............	167
172	یہ غیب کی باتیں ہیں جو نبی (علیہ السلام) کے سوا کوئی نہیں جانتا	168
10واں باب	......کہ گمانِ نقص جہاں نہیں	169
174	کیا بروزِ قیامت حضور ﷺ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے؟	172
175	چند احادیث مبارکہ	172
176	دلچسپ بات یہ ہے کہ............	174
177	کیا مجرم قیامت کے دن بھی نہیں پہچانے جائیں گے؟	176
178	مومن اور مجرم جدا جدا	177
179	منافقوں اور مرتدوں کو صحابی کہنے کا سبب	178
180	منافقین کا استہزاء	179
181	استہزاء کی سزا	179
182	اس سزا کی ایک مثال	179
183	منافقین کو اصحابی کہنے کی مثالیں	180
184	ایک سوال	181

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

185	حسرت ویاس میں مبتلا کرنے کے بارے میں احادیث	181
186	دوسرا سوال	182
187	تیسرا سوال	183
188	فیصلہ کن حدیثِ پاک	183
189	کیا حضور ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی کا علم نہ تھا؟	185
190	واقعہ افک کی تفصیل	185
191	بخاری شریف کی حدیث پاک سے علم ویقین کا روشن بیان	187
192	جھوٹی تہمت کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا علم ویقین	187
193	بریرہ کنیز رضی اللہ عنہا کا علم ویقین	187
194	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا علم ویقین	187
195	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا علم ویقین	187
196	خود حضور ﷺ کا علم ویقین	188
197	مزید احادیث مبارکہ	190
198	لوگوں کے تین گروہ	191
199	کیا حضور ﷺ کو اپنے انجام اور مقام کی خبر نہیں؟	194
200	لفظ اَدْرِی کی تحقیق	195
201	اس آیت کا سیاق وسباق بھی پیش نظر رہے	196
202	زمانۂ نزول کی روشنی میں	196
203	مقام مصطفیٰ ﷺ از کلام خدا عزوجل	198
204	ہر لحہ درجات کی بلندی	198
205	مقام مصطفیٰ ﷺ بزبان مصطفیٰ ﷺ	198

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

206	سب کے سردار ہمارے نبی ﷺ	198
207	مقامِ محمود فقط آپ ﷺ کے لئے ہے	199
208	سب سے پہلے آپ ﷺ ہی سفارش کریں گے	199
209	سب سے پہلے آپ ﷺ ہی پل صراط سے گزریں گے	199
210	حضور ﷺ سے ملاقات حوضِ کوثر پر ہوگی	200
211	حضور ﷺ کا اپنے حوضِ کوثر کو دیکھنا	200
212	ہمارے آقا ﷺ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے	200
213	یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں حضور ﷺ کے بہت قریب ہوگا	201
214	اور حضور ﷺ کا اپنے جنت کے مقام کو دیکھنا	201
215	وصال سے پہلے ہر نبی علیہ السلام اپنا جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے	201
216	چند اصولی گزارشات	203
11واں باب	بے ادب...... بدنصیب	207
218	حضور ﷺ کے علم پاک کی وسعت و عظمت کا انکار کرنے والے	209
219	مومن اور منافق جدا جدا	209
220	حضور ﷺ کو بے خبر کہنے والے	209
221	حضور ﷺ کے علم غیب پر طعن کرنے والے	210
222	منافق ہی مذاق اڑاتے ہیں اور منافق ہی اعتراض کرتے ہیں	210
223	سورہ توبہ کی یہ آیت کب اور کیسے نازل ہوئی؟	210
224	اس رویے کا انجام کیا ہوا؟	211
225	اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے	212

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

12واں باب	صحابہ کرام ﷢ کا عقیدہ	213
227	اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ	215
228	حضرت اُم المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ	216
229	امیر المومنین حضرت عمر فاروق ﷜ کا عقیدہ	217
230	امیر المومنین حضرت عثمان غنی ﷜ کا عقیدہ	218
231	حضرت عثمان غنی ﷜ کو اپنی شہادت کا ایسا یقین کیوں تھا؟	220
232	امیر المومنین حضرت علی ﷜ کا عقیدہ	221
233	حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا عقیدہ اور حضرت ابن عمر ﷜ کا عقیدہ	222
234	حضرت ابو ہریرہ ﷜ کا عقیدہ	222
235	حضرت ام ربیع ﷜ کا عقیدہ	224
236	حضرت عمرو بن العاص ﷜ کا عقیدہ	225
237	حضرت عکاشہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ	226
238	حضرت حذیفہ ﷜ کا عقیدہ	229
239	سوئے منزل.........سوئے مدینہ	231
240	تعارف تحریکِ مطالعہ قرآن	237

اطلاع

اس ایڈیشن کی جملہ آمدن مستقلاً تحریکِ مطالعۂ قرآن کے لیے وقف ہے۔
قرآنی تعلیمات عام کرنے کا ذوق و احساس رکھنے والے احباب
اپنے پیاروں کو ایصالِ ثواب کرنے کے لیے مفت تقسیم
کرنا چاہیں تو خاص رعایت کے لیے رابطہ کریں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

انتساب

حضورِ سیدِ عالم، فخرِ بنی آدم، نورِ مجسم، نبیءِ مکرم، شفیعِ معظم، رسولِ محتشم،

سرکارِ ابدقرار، مدنی تاجدار، محبوبِ پروردگار، سیدِ ابرار، آقائے نامدار

احمدِ مختار ﷺ

http://t.me/Tehqiqat

کے نام

جن کی محبت ہی میری کل کائنات ہے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مَولَایَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْکَوْنَیْنِ وَالثَّقَلَیْنِ
وَالْفَرِیْقَیْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ
فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْیَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ﷺ

http://t.me/Tehqiqat

❁❁❁❁

اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ
ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے اِنہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مقدمہ

از

مفکر اسلام مفسّر قرآن

حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ

(ڈائریکٹر ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی پاکستان)

https://t.me/Tehqiqat

"جینا" کیفیت بھی ہے، بعض اوقات تنگ وجود بھی ہے اور کبھی یہ ایمان اور ریاضت بھی ہو جاتا ہے۔ اس جہان رنگ وبُو میں سچی بات یہ ہے کہ جینا انہیں کا جینا ہے جو دولت دنیا، مال ومنال اور رشتہ و پیوند ایسے بتانِ وہم وگمان کو پائے استغنا تلے روند کر حسنِ ازل کے شاہکار رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کر جیتے ہیں۔ ایسے دیوانگانِ عشق کے جینے کے انداز ہی نرالے، دلچسپ اور رحمت فروغ ہوتے ہیں۔ ان کی سوچوں کا ہمالہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیاءِ دوں کے غلام اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ان کا مسلکِ فکر بس یہی ہوتا ہے۔

نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نسب پیوند ما
دل ز محبوب حجازی بستہ ایم
زیں جہت با یک دگر پیوستہ ایم

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

یہ وہ زینۂ محبت ہے جس پر قدم رکھنا معراجِ حیات ہے۔اس وظیفۂ زندگی سے محروم بھی بہت لوگ ہیں اور اس سعادت سے بہرہ مند بھی بہت ہستیاں ہیں۔اس محبت نگری کی جو خوشبو پالیتا ہے اس کی سوچوں، اس کے خیالات، اس کے فتاویٰ، اس کے اعمال اور اس کی تحقیقات سب خوشی سے ایک زنجیر پہن لیتی ہیں......ادب کی، احتیاط کی، حزم کی، ورع کی اور محبوب کی ذات میں کھوئے رہنے اور ڈوبے رہنے کی۔احمد رضا پیار، محبت، احتیاط اور ادب کی راہوں میں چلنے والے ایک نوجوان ہیں۔انہیں عالم یا محقق ہونے کا دعویٰ نہیں۔اصل میں وہ حضور ﷺ کی زلفِ جنت گیر کے اسیر ہیں۔آپ ﷺ کی شان میں کوئی فرد ہو یا مسلک، تنظیم ہو یا گروہ جب بے احتیاطی برتتے تو احمد رضا غم وغصہ کی بجلی بن جاتے ہیں۔چونکہ وہ کالج میں علومِ اسلامی کے اُستاد بھی ہیں اس لئے مطالعہ کرتے ہوئے ان مسالک سے خوب آگاہ رہتے ہیں جن کے حصہ میں سوائے حضور ﷺ کی بے ادبی کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔اب بتائیے ایک ایسا شخص جس کی سوچ اور عقیدہ یہ ہو کہ

نسخۂ کونین را دیباچہ اوست
جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست

کبھی برداشت نہیں کرسکتا کہ اس کے محبوب اور کائنات کے قائد ﷺ کی طرف کوئی بے علمی منسوب کرے۔یہی مطالعہ دراصل احمد رضا کے کام اور کوششوں کے لئے مہمیز بن جاتا ہے۔وہ حدیث کی درجنوں کتابیں پڑھتے جاتے ہیں اور جانِ جمال محمد ﷺ کے علم پر انہیں جو موتی اور جو پھول ملتا جاتا ہے اسے وہ اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح علم رسالت مآب ﷺ پر دلائل اور احادیث کا ایک خوبصورت چمن کھل اُٹھتا ہے۔اب احمد رضا کی مرضی ہوتی ہے کہ ہر عاشق، ہر محبِ اور ہر جستجو رکھنے والا اس چمن میں آئے اور علم رسول ﷺ کی بُو پائے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پروفیسر احمد رضا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا روشن چراغ بلا شبہ کئی لوگوں کی شمع کشتہ کو جلا سکتا ہے۔ راقم حروف نے بھی اس دمکتے اور دِل گداز مجموعے کو پڑھا ہے۔ خیال ہے کہ ایسا ادب ہی نوجوانوں کے لئے عقیدہ ساز، اخلاق آفرین اور سیرت آگاہ ثابت ہوسکتا ہے۔

امید ہے احمد رضا رشحاتِ قلم سے نوجوانوں کو نوازتے رہیں گے۔ البتہ احمد رضا کے لیے باغوں کی مہک سے حلاوت مند ہونے کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ تخلیقی، علمی، اور کردار ساز عنوانات پر جدالی انداز کی بجائے صوفیانہ محبت کا اسلوب غالب رکھیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اگر کوئی غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے تو اپنے حبیب لبیب ﷺ کے وسیلہ سے انہیں معاف فرمائے۔

طالب دعائے رحمت

سید ریاض حسین شاہ

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

نعمت.........ذکرِ نعمت

علم ایک نعمت ہے .... اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیگر نعمتوں کے علاوہ علم کی اس خاص نعمت سے بھی خوب نوازا مگر ہمارے حضور ﷺ تو اللہ پاک کے خاص محبوب اور اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرّم و مقرّب ہیں اس لئے اللہ پاک نے جتنا علم آپ ﷺ کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔

...... ماضی و مستقبل کا علم ...... دُور و نزدیک کا علم ...... زمین اور زیرِ زمین کا علم ...... آسمان اور عرش و کرسی کا علم ...... جنت و دوزخ کا علم ...... ظاہر و پوشیدہ کا علم ...... غرض ساری کائنات کا علم ...... دن ہو یا رات ...... خلوت ہو یا جلوت ...... غار ہو یا پہاڑ ...... مسجد ہو یا میدان ...... نماز ہو یا نیند ...... گھر ہو یا محفل ...... سفر ہو یا قیام ...... غرض ہر جگہ اور ہر حالت میں علم و حکمت کا آسمانی نُور قلبِ مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش فزوں سے فزوں تر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ مُژدہ سنا دیا گیا۔ اے محبوب (ﷺ)! رب کے خزانے بہت وسیع ہیں اور اس کا دستِ عطا بہت فراخ ہے۔ نعمتوں کے سارے خزانے آپ ﷺ کے لئے ہیں۔ جو کچھ آپ ﷺ کو عطا ہوا، یہ خیرِ کثیر تو ہے مگر نہ خیر کی انتہا ہے اور نہ کثرت کی انتہا............ وہ دیتا رہے گا، آپ (ﷺ) لیتے رہیئے۔ ہر لمحہ گزرے لمحے سے بہتر ہوگا اور ہر حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ ﴿مفہوم آیت: 04 سورۃ الضحیٰ﴾

نعمت کی عطا ہوتی رہی، نور کا سمندر پھیلتا رہا، اب کتنی عطا ہوئی اور کتنا سمندر پھیلا ...... ہماری نظر کہاں تک دیکھے، ہماری عقل کہاں تک سمجھے ...... اللہ کی عطا اور آپ ﷺ کے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ظرف کو اپنے پیمانے سے ماپنا اور اپنے ترازو میں تولنا حماقت ہی تو ہے۔

قرآن نے بھی سمجھایا کہ نعمتوں کو یاد کرتے رہو، عطاؤں کے گیت گاتے رہو۔ عطاءِ نعمت محبت کا تحفہ ہے اور ذکرِ نعمت اہل محبت کا وظیفہ۔ ذکرِ نعمت اللہ کی سُنّت بھی ہے اور اس کا حکم بھی۔ اس کتاب کی تالیف کا یہی محرک ہے اور یہی سبب۔ یہ کتاب فقط اپنی قلبی محبت کا اظہار اور محبت کے فروغ کی ایک کوشش ہے۔ یہ نعمت کا تذکرہ اور محبت کی محفل ہے۔

محبت...... ہاں اس محبت کے کئی نام ہیں...... اس محبت کا ایک نام خوشبو بھی ہے اور خوشبو سے روح مہک جاتی ہے...... اس محبت کا ایک نام روشنی بھی ہے اور روشنی سے اُلجھی راہیں سلجھتی ہیں...... اس محبت کا ایک نام سچائی بھی ہے اور سچائی قبول کرنے والے ہی کامیاب رہتے ہیں۔

آؤ نعمت کے اس تذکرے اور محبت کی اس محفل سے اپنی روح کو مہکائیں۔ اپنی راہوں کو سلجھائیں اور کامیابی حاصل کریں۔

http://t.me/tehqiqat

کچھ اسلوب کے بارے میں

-1 میں نے اس گُل دان میں قرآنی آیات کے علاوہ بخاری و مسلم کے گلشن سے دو سو سے زیادہ احادیث کے مدنی پھول سجانے کی کوشش کی ہے۔ قدر شناس جانتے ہیں کہ اس سے بہتر خوشبو اور کہیں سے نہیں ملتی۔

-2 ترتیب منظم اور تحریر سادہ و عام فہم ہے۔

-3 پڑھنے والوں کو قرآن و حدیث کے قریب رکھنے کے لئے پیچیدہ اور مشکل عبارات و مباحث اور کثیر و طویل تبصروں سے گریز کرتے ہوئے بنیادی مواد پیش کیا ہے۔

-4 بنیادی اور مکمل حوالے دیئے ہیں تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

5- عربی عبارات پر اعراب لگائے ہیں تا کہ عربی زبان میں مہارت نہ رکھنے والوں کے لئے بھی اپنے آقا حضور ﷺ کی پیاری پیاری باتیں پڑھنا اور یاد کرنا آسان رہے۔

6- تلخ و ترش الفاظ اور تند و تیز جملے اور متعدد کتابوں کی گستاخانہ عبارات تحریر کرنے سے قصداً گریز کیا ہے تا کہ لطافت اور سنجیدگی متاثر نہ ہو۔

یا رب العالمین! میری کم علمی اور بے عملی کو تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو نے اس کام کی توفیق دی ہے تو اب میری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اس کوشش کو قبول بھی فرمالے۔ تیری بلند بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب ﷺ کے راہِ دین میں بہنے والے خون اور اُمت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ تُو مجھے اور میری اولاد سمیت ہر مسلمان کو دین کا سچا درد عطا فرما اور حضور ﷺ کے ہر اُمتی کو آپ ﷺ کی والہانہ محبت و عقیدت اور آپ ﷺ کے دلی ادب و احترام کی تبلیغ کرنے والا بنا، آمین۔

میں مفکرِ اسلام، مفسرِ قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، علامہ پروفیسر علی احمد صاحب، حافظ محمد ظہور اللہ چشتی صاحب، جناب ریاض الدین صاحب سمیت ان تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی علمی راہنمائی، مالی تعاون اور دوڑ دھوپ سے اس کتاب کی ترتیب و تنظیم اور طباعت و اشاعت کے مراحل آسان ہوئے۔ اللہ پاک ان سب احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجھ نکمے کو تادمِ آخر دین کی پُرخلوص خدمت کی عادت عطا فرمائے۔ آمین۔

قارئین کی خدمت میں گزارش ہے کہ برائے خاکِ مدینہ میری والدہ مرحومہ کی مغفرت اور اس عاجز و مسکین کے حُسنِ خاتمہ کے لئے خصوصی دعا فرمائیں۔

طالبِ دعا احمد رضا قادری عفی عنہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پہلا باب

قرآن مجید

اور

انبیاء کرام علیہم السّلام

کا

علم پاک

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علمِ غیب عطا فرماتا ہے

1- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

﴿سورۃ آل عمران:179﴾

"اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ (اے عام لوگو!) تمہیں غیب کا علم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے"

2- عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ○ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ○

﴿سورۃ جن:27,26﴾

"غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے"

حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علمِ غیب عطا فرمایا گیا:

3- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ﴿سورۃ البقرہ:31﴾

"اور اللہ تعالیٰ نے (حضرت) آدم علیہ السلام کو تمام (اشیاء کے) نام سکھائے پھر سب (اشیاء) ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا: سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اشیاء کے علم سے کیا مراد ہے؟

☆ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھانے کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو وہ تمام جنسیں دکھادیں جن کو پیدا کیا ہے اور ان کو بتادیا کہ اس کا نام گھوڑا اور اس کا نام اُونٹ اور اس کا نام فلاں ہے۔ ﴿تفسیر مدارک التنزیل ج1 ص40﴾

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے نام سکھادیے یہاں تک کہ پیالی اور چلّو کے بھی۔ ﴿تفسیر معالم التنزیل 01/47﴾

☆ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے نام سکھادیئے اور کہا گیا کہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے نام اور کہا گیا کہ ان کو تمام زبانیں سکھادیں۔
﴿تفسیر خازن 01/47﴾

☆(1) ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہلِ ایمان سفارش کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو دیگر گزارشات کے علاوہ یہ بھی عرض کریں گے: وَعَلَّمَكَ اَسْمَآءَ كُلِّ شَیْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ:...... "اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں"
﴿بخاری کتاب التفسیر باب قولہ و علّم اٰدم الاسمآء کلّھا 01/642۔ مسلم۔ نسائی۔ ابن ماجہ﴾

حافظ ابنِ کثیر نے اس حدیث شفاعت کے ذکر کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے، سب جانوروں کے، زمین و آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن بھانڈے، چرند پرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے ذاتی وصفاتی ناموں کے علاوہ کاموں کے نام بھی

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

سکھادیئے۔ نیز نہ صرف ان چیزوں کے نام سکھائے بلکہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کروایا۔

﴿تفسیر ابنِ کثیر زیرِ آیت بالا ج 01 ص 73 مطبوعہ سہیل اکیڈمی شاہ عالم لاہور﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسیع علم و مشاہدہ عطا کیا گیا:

4- وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝ ﴿سورۃ انعام:75﴾

"اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے"

حافظ ابنِ کثیر کا بیان:

ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچی اور ساتوں زمینیں ان کے لئے کھل گئیں اور وہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگے۔ ﴿تفسیر ابنِ کثیر زیرِ آیتِ بالا 02/150﴾

مزید لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی اور اعلانیہ ساری چیزیں دکھلا دیں۔ ان میں کچھ بھی چھپا نہ رہا۔ اس لیے محتمل ہے کہ ان کی نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا ہو اور نہاں (پوشیدہ) ان کیلئے عیاں (ظاہر) ہو گیا ہو اور یہ بھی محتمل ہے کہ اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہو۔

2- مروی ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ ایک بہترین شکل میں آیا اور فرمایا: اے محمد (ﷺ)! ملاءِ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے یا رب! میں نہیں جانتا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا کہ اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

میں اپنے سینے میں پانے لگا۔ اب ہر چیز مجھ پر کُھل گئی اور میں سب کچھ دیکھنے لگا۔

﴿ترمذی ابواب تفسیر القرآن تفسیر سورہ صٓ، مسند احمد ج 5 بسند معاذ﴾

ضروری اطلاع:

چونکہ یہ حدیث مبارکہ اور اسی باب کی دیگر دو احادیث مبارکہ حضور ﷺ کے علمِ غیب کی وسعت و عظمت کی روشن دلیل ہیں اس لیے بعض لوگوں نے اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق استوار کرنے کی بجائے اسے ترمذی کے نئے نسخوں سے نکال دیا ہے۔

اور......مَافِی الرِّحْمِ......کا غیبی علم بھی عطا ہوا

5- مافی الرّحم: ”ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ (بیٹا یا بیٹی)؟“

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ ۝ ﴿سورۃ الذّاریات: 28﴾

”اور اسے ایک علم والے لڑکے (حضرت اسماعیل علیہ السلام) کی خوش خبری دی“

6- وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝ ﴿سورۃ ہود: 71﴾

”اور اس (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کی بیوی کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اُسے اسحاق کی خوش خبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی“

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمِ غیب عطا فرمایا گیا:

7- وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ ۝ ﴿سورۃ یوسف: 06﴾

”(حضرت یعقوب نے کہا) اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا“

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی خبر دے دی۔ نیز یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب اپنے والد گرامی سے عرض کیا تھا، اس میں باتوں کا انجام نکالنے کا کوئی قرینہ یا کوئی اشارہ نہ تھا۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے علمِ نبوت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس علم کے بارے میں بھی بتا دیا جس کا اظہار کئی سالوں بعد مصر کے قید خانہ میں ہوا۔

8- وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

﴿سورۃ یوسف:68﴾

"اور بے شک وہ علم والا ہے ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے"

کیا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جانتے تھے؟

9- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

﴿سورۃ یوسف:83﴾

"قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے گا، وہی علم و حکمت والا ہے"

چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی، والیِ مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہ تھے۔ اس لئے وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے مصر میں بنیامین کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بھائی (کبیرُ ھم) کو چھوڑا ہے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ مصر میں ان دو (2) کے ساتھ تیسرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں اس لئے آپ نے جَمِيْعًا ...... فرمایا اور مُبتدی بھی جانتا ہے کہ عربی میں جمع کم از کم تین افراد سے بنتی ہے۔

آیت نمبر 06 اور آیت نمبر 83 سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے خبر نہیں تھے اور ان کا رونا بے خبری کے باعث نہیں

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بلکہ ان کی جدائی کے باعث تھا۔

اس ضمن میں یہ آیت بھی ملاحظہ ہو۔

10- وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○ ﴿سورۃ یوسف:86﴾

''اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے''

یہ آیت کریمہ بھی خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے علمِ غیب کی نشان دہی کرتی ہے جیسا کہ بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیش کی تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا۔

11- اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○ ﴿یوسف:96﴾

''کیا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے''؟

آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے:

والمراد علمه بحياة يوسف من جهة الرّؤيا ''اور اس خواب کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات کا علم مُراد ہے'' ﴿ج06 ص508﴾

http://t.me/Tehqiqat

مزید فرماتے ہیں:

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَالِمًا بِاَنَّ مَلِكَ مِصْرِ هُوَ وَلَدُهٗ يُوْسُفُ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَا اَذِنَ لَهٗ فِیْ اِظْهَارِ ذَالِكَ

﴿زیر آیت 68 ج06 ص483 مطبوعہ مکتبہ علوم اسلامیہ لاہور﴾

''آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ مصر کا حکمران آپ کا بیٹا یوسف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اس (راز) کے اظہار کی اجازت نہ تھی''

حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم تھا یا نہیں، اس سے قطع نظر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی کے حزن وملال کی کیفیت پہلے سے معلوم نہ سہی، بھائیوں سے ملاقات ہونے پر تو تمام صورت حال واضح

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ہوگئی تھی پھر انہوں نے مصر کا حکمران ہونے کے باعث تمام وسائل میسر ہونے کے باوجود اپنے والد گرامی کو اپنے پاس کیوں نہ بلوالیا اور اگر بلوانا بھی مناسب نہ سمجھا ہو تو کم ازکم اپنے بارے میں اطلاع ہی بھجوادی ہوتی مگر آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی خاموشی اللہ کے حکم سے تھی جیسا کہ صاحب تفسیر مظہری نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ ﴿187/05، ادارہ اشاعت العلوم دہلی﴾

اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حزن وملال کو بے خبری پر محمول کرنا محض سطحی اندازِ فکر ہی کا نتیجہ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علمِ غیب عطا فرمایا گیا:

12- اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ

﴿سورۃ یوسف:93﴾

"میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو وہ بینا ہو جائیں گے"

اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی پھر آنے کا بیان کرنا اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مستقبل یعنی مَافِیْ غَد کا غیبی علم عطا فرمایا ہے۔

تفسیر مظہری میں بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ ﴿198/05﴾

حضرت یوسف علیہ السلام کے علمِ غیب کا مزید بیان:

13- قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۚ ﴿سورۃ یوسف:37﴾

"حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے"

محمد ادریس کاندھلوی اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ میں تم کو اس (کھانے) کے آنے سے پہلے اس کے حال اور مآل (نتائج و اثرات) سے آگاہ کر دوں گا کہ فلاں چیز تمہارے پاس آئے گی اور اس کی کیفیت و کمیت کیا ہوگی۔

حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علمِ غیب سکھایا گیا:

15- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَیْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○ ﴿سورۃ کہف:65﴾

"تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنّی عطا کیا"

http://t.me/Tehqiqat

علمِ لدُنّی کیا ہے؟

تفسیر بیضاوی میں ہے۔

16- اَیْ مِمَّا یَخْتَصُّ بِنَا وَلَا یُعْلَمُ اِلَّا بِتَوْفِیْقِنَا وَ هُوَ عِلْمُ الْغَیْبِ ○

﴿ص 148ج03 مصر﴾

"حضرت خضر (علیہ السلام) کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتا اور وہ علمِ غیب ہے"

نوٹ: یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں جہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا وہاں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ رہا اس کے بتانے سے غیب کا جاننا تو وہ ان تمام آیات اور اس کتاب کی احادیث سے صراحتاً ثابت ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تفسیر روح البیان میں ہے:

هُوَ عِلْمُ الْغُيُوْبِ وَالْإِخْبَارُ عَنْهَا بِإِذْنِهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ

"(حضرت خضر کو جو علم لدنی سکھایا گیا) وہ غیبی باتوں کا علم ہے اور خدا کی اجازت سے اس غیبی علم سے خبریں دینا جیسا کہ صحابی رسول ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس طرف گئے ہیں" ﴿05/270 دار الفکر بیروت﴾

علامہ شوکانی کی فتح القدیر میں ہے۔

وعلمناه من لدنا علما .... و هو ما علمه الله سبحانه من علم الغيب الذى استاثر به وفى قوله من لدنا تفخيم لشان ذالك العلم و تعظيم له ﴿فتح القدیر ص 427 جز ثالث دار الفکر بیروت﴾

"اور ہم نے انہیں اپنے خاص علم غیب میں سے بعض کی تعلیم دی اور مِنْ لَّدُنَّا میں تفخیم ہے جس سے دیئے گئے علم کی شان اور عظمت بتلانا مقصود ہے"

محمد ادریس کاندھلوی کی تفسیر معارف القرآن میں ہے:

"اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بیان فرمایا: وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا......

اور ان کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا جو نظر و فکر سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ ہم نے اپنے پاس سے ان کو باطنی علم سکھایا۔ وہ علم ہمارے ساتھ خاص ہے، بغیر ہمارے سکھائے کوئی اس کو نہیں جان سکتا۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ایسے ہی علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ جس میں اسباب ظاہری کا دخل اور واسطہ نہ ہو اور عالم غیب سے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہو"

مزید لکھتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اسرار غیبی اور باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم عطا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامِ شریعت کا علم عطا فرمایا تھا" ﴿ج 4 ص 433﴾

الحمد للہ! اس آیتِ مبارکہ اور اس کے تحت تفسیری بیانات نے یہ سمجھنا بھی آسان کر دیا کہ قرآنِ پاک کی آیات میں مذکور اَنباء الغیب (اخبارِ غیب) سے علمِ غیب کی نفی کرنا درست نہیں اس لیے کہ علمِ غیب اور اخبارِ غیب میں منافات و تضاد نہیں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی تردید لازم آئے۔ دوسرے یہ کہ غیبی خبریں تو بجائے خود علمِ غیب کی دلیل ہیں اس لئے کہ علم کے بغیر تو خبر نہیں دی جا سکتی۔ اسی لئے عقائد کی کتب میں مذکور ہے کہ خبرِ صادق علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جیسا کہ شرح عقائدِ نسفیہ ص 12 میں لکھا ہے۔

حاصل کلام: اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں خصوصاً حضور ﷺ کے علمِ پاک کی وسعت کو ظاہر کی گئی خبروں میں محدود کرتے ہوئے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو غیب کا اتنا ہی علم دیا گیا تھا جس کی آپ ﷺ نے خبر دے دی بلکہ آپ ﷺ کو جو علم عطا ہوا وہ ایک وسیع سمندر ہے اور یہ خبریں اس سمندر کے چند قطرے۔ اس علمِ پاک میں سے آپ ﷺ نے جو خبریں دی ہیں وہ دوسروں کے ظرف اور ضرورت و مناسبت کے مطابق تھیں۔ باقی جس طرح آپ ﷺ کا یہ علم اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود علمِ الٰہی کے ساتھ کوئی تقابلی نسبت نہیں رکھتا، اس طرح تمام مخلوق کا کُل علم آپ ﷺ کے وسیع علم کے ساتھ کوئی تقابلی نسبت نہیں رکھتا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے علم مافی الرّحم کا ثبوت:

16- یٰزَکَرِیَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ یَحْیٰی لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ○ ﴿سورۃ مریم: 07﴾

"اے زکریا! ہم تجھے خوش خبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

یہ غیبی علم حضرت مریم علیہا السّلام کو بھی عطا ہُوا:

17- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

﴿سورۃ آل عمران:45﴾

”یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم! اللہ تجھے خوش خبری دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا“

نوٹ: مافی الرّحم سے متعلق ان چار آیاتِ مبارکہ سے واضح ہُوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ علم بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے سورۃ لقمان کی آخری آیت کے اس مفہوم کا تعین سمجھنا بھی آسان ہُوا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے اپنے آپ کوئی نہیں جانتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علمِ غیب عطا فرمایا گیا:

18- وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

﴿سورۃ اٰل عمران:49﴾

”اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بیشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علمِ غیب دائماً حاصل تھا:

یہ کھائے ہوئے کھانے اور گھروں میں موجود کھانے کے بارے میں بتانا وقتاً فوقتاً اور کبھی کبھار کے لیے نہ تھا بلکہ فعلِ مضارع سے معلوم ہوا کہ غیب کا یہ علم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائماً و مستمراً حاصل تھا۔

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

لوحِ محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے:

19- وَلَا حَبَّةٍ فِیْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا یَابِسٍ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ○ ﴿سورۃ انعام:59﴾

''اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب (لوحِ محفوظ) میں لکھا نہ ہو''

20- وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ○ ﴿سورۃ النمل:75﴾

''اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں''

لوح محفوظ میں ادنیٰ واعلیٰ ہر چیز اس لیے نہیں لکھی گئی کہ خدا کو اپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا بلکہ یہ بیان ان مقربین کے لئے ہے جو لوحِ محفوظ پر نظر رکھتے ہیں۔

حافظ ابنِ کثیر لکھتے ہیں: برّ و بحر کے ہر شجر پر ایک فرشتہ موکل ہے جو پتوں کے گرنے تک کی یادداشت رکھتا ہے۔ ﴿تفسیر ابنِ کثیر زیرِ آیت بالا 02/137﴾

لوحِ محفوظ کی تمام تفصیل قرآن میں ہے:

21- وَمَا کَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ یُّفْتَرٰی مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰکِنْ تَصْدِیْقَ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلَ الْکِتٰبِ لَارَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○ ﴿سورۃ یونس:27﴾

''اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنالے بغیر اللہ کے اُتارے۔ ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور کتاب (لوحِ محفوظ) میں جو لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے''

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے:

22- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴿سورۃ النحل:89﴾

''اور ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے''

حافظ ابنِ کثیر لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس ہماری اتاری ہوئی کتاب میں ہم نے تیرے سامنے سب کچھ بیان فرمادیا ہے۔ علم اور ہر شے اس قرآن میں ہے۔ ﴿تفسیر ابنِ کثیر 03/582﴾

محمد ادریس کاندھلوی معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

اور علاوہ ازیں آپ ﷺ کی نبوت و رسالت اور آپ کی سیادت و افضلیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ ﷺ پر یہ کتاب یعنی قرآن اتارا جس میں دنیا و دین کی سب چیزوں کا بیان ہے۔

https://t.me/Tehqiqat

قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل ہے:

23- مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿سورۃ یوسف:111﴾

''یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت''

اللہ نے قرآن حکیم میں سب کچھ بیان فرمایا ہے:

24- مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴿سورۃ انعام:38﴾

''ہم نے اس کتاب میں کسی شے کا بیان نہ چھوڑا''

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حافظ ابنِ کثیر لکھتے ہیں:

☆ (3) قال ابوذر ولقد ترکنا رسول اللّٰہ ﷺ یقلب طائر جناحیہ فی السّماء الاّ ذکرنا منہ علما

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اُڑتے ہوئے پرندے تک کے بارے میں علم دیا ہے۔

﴿تفسیر ابن جریر 7/221 دار احیاء بیروت۔ تفسیر ابنِ کثیر 02/131﴾

قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ''الاتقان فی علوم القرآن'' میں ہے:

کہا گیا ہے کہ اس نام رکھنے کی وجہ اس کتاب کا علوم کی تمام اقسام کو اپنے اندر فراہم کر لینا ہے۔ ﴿اردو ج 01 ص 135 مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور﴾

''ہماری آسمانی کتاب قرآن پاک تمام علوم کا سرچشمہ ہے اور آفتابِ علوم کا مَطلع۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا علم فراہم کر دیا ہے'' ﴿ج 01 ص 182﴾

''میں کہتا ہوں کہ بے شک کتاب اللہ ہر ایک شے پر مشتمل ہے'' ﴿ج 02 ص 302﴾

حضور ﷺ کو خود رحمٰن نے قرآن سکھایا:

25- اَلرَّحْمٰنُ ① عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ② ﴿سورۃ رحمٰن﴾

''رحمٰن نے (اپنے محبوب ﷺ) کو قرآن سکھایا''

حاصل کلام: لوحِ محفوظ میں ہر شے کا بیان ہے، لوحِ محفوظ کی تمام تر تفصیل قرآن میں ہے اور قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے آقا حضور ﷺ ہیں۔ لہٰذا آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قرآنی علوم کی وسعت وجامعیت کی جھلکیاں:

(1) الاتقان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے "اگر میں چاہوں کہ ستر اونٹوں کو محض سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے لاد دوں تو بے شک میں ایسا کر سکتا ہوں" ﴿ج2 ص457﴾

(2) حِبرُ الاُمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اُونٹ کی رسّی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی کتاب اللہ میں پاؤں" ﴿ج02 ص315﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے علوم ومعارف کی وسعت کا یہ عالم ہے تو خود حضور ﷺ کے قرآنی علوم ومعارف کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔

جب سکھانے والا عالم الغیوب ہو، سیکھنے والا پیارا محبوب ہو تو ہماری عقل بیچاری کیا اندازہ کرسکتی ہے۔ اس لیے حضور ﷺ کے علم پاک کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنا اور اپنے محدود علم ومعلومات کی بناء پر آپ ﷺ کو بے خبر ثابت کرنے کی کوشش کرنا نادانی بھی ہے اور بدنصیبی بھی۔ اللہ پاک اپنا اور اپنے مقربین کا ادب واحترام کرنے والا بنائے، آمین۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کو صرف دینی احکام ومسائل میں محصور ومقصور کر دینا درست نہیں اس لئے کہ اُونٹ کی رسّی کا تعلق تو احکام ومسائلِ شریعت سے نہیں۔

علاوہ ازیں آئندہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضور ﷺ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اور ابن سالم رضی اللہ عنہ نے اپنے نسب کی اصلیت اور ایک شخص نے اپنے اُخروی ٹھکانے کے بارے میں سوال کیا تو حضور ﷺ نے سوال کرنے والوں کے جوابات دیئے۔ مزید یہ کہ حضور ﷺ کا اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو پرندوں تک کے بارے میں علم عطا فرما دینا بھی احادیث میں موجود ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا علم نماز روزے کے احکام ومسائل تک محدود نہیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ کے علم پاک کا مزید بیان:

26- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَابِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ○ ﴿سورۃ النحل:89﴾

"اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہیں میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے اور اے محبوب (ﷺ)! تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے"

لفظ شہید اور لغات و تفاسیر کا خلاصہ:

مفردات امام راغب، تفسیر عزیزی، تفسیر رُوح البیان، تفسیر مدارک التنزیل، تفسیر نیشا پوری، تفسیر بیضاوی، تفسیرِ جمل، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابوسعود اور دیگر معتبر تفاسیر کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کے معنی حاضر ہونا مع ناظر ہونا کے ہیں اور حضور ﷺ کے شہید ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ اُمتی کے گناہوں، نیک و بد اعمال اور خلوص و ریا، کافروں کے کفر اور منافقوں کی منافقت سے آگاہ ہیں اور اس کی گواہی دیں گے نیز یہ کہ آپ ﷺ کی رُوح مبارک تمام رُوحوں، جانوں اور دلوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔

علمِ غیب کی عطا فضل عظیم ہے:

27- وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

﴿سورۃ النساء:113﴾

"اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے"

امام المفسرین ابن جریر کی تفسیر ابن جریر میں اس آیت کے تحت ہے:

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنْ خَبَرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مُذْخَلَقَكَ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

"اور سکھا دیا تمہیں اللہ نے جو تم نہ جانتے تھے تمام اوّلین و آخرین کی خبریں اور جو ہو چکا ہے اور جو ہونیوالا ہے اس کے ہونے سے پہلے اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے...... اے محمد (ﷺ)! جب سے تم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے"

تفسیر جلالین ص 116 جز پنجم مطبوعہ مصر میں ہے:

عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ

"تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے احکام اور غیب سے"

اور حضور ﷺ غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں:

28- وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝ ﴿سورۃ التکویر:24﴾

"اور یہ نبی غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں"

http://t.me/tehqiqat

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو علم غیب دیا گیا اور آپ ﷺ نے دوسروں کی ضرورت اور ظرف کے مطابق غیب بتانے میں بخل نہیں فرمایا۔

29- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝ ﴿سورۃ الضحیٰ:05﴾

"اور عنقریب تیرا رب تجھے (اتنا) عطا فرمائے گا تو تُو راضی ہو جائے گا"

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابنِ کثیر لکھتے ہیں:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرِضَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاهُوَ مَفْتُوْحٌ عَلٰى اُمَّتِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ كَنْزًا كَنْزًا فَسُرَّ بِذَالِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿تفسیر ابنِ کثیر 04/522﴾

"جو خزانے آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی اُمت کو ملنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے سب آپ ﷺ پر پیش کیے گئے تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ان تمام آیات اور معتبر و مستند تفاسیر کی عبارات سے اوّلاً یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وسیع علمِ غیب عطا فرماتا ہے۔ ثانیاً ان آیات کا منشاء و مراد متعیّن کرنا بھی آسان ہو گیا جن سے علمِ غیب کی نفی پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا فقط یہی مطلب ہے کہ علمِ غیب کی حقیقی مرکزیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذاتی طور پر یا محض درایت یعنی قیاس و اٹکل سے کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے دستِ عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے، علمِ غیب سے نواز دیتا ہے۔

اگر نفی پر دلالت کرنے والی آیات کا یہ مطلب نہ کیا جائے اور ان آیات سے مطلق علمِ غیب کی نفی کی جائے (جیسا کہ بعض کتب میں مخلوق کے لئے اللہ کی عطا سے بھی علمِ غیب کا اعتقاد شرک بتایا گیا ہے) تو اثبات و نفی کی آیات میں تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بعض آیات کا بعض آیات سے تعارض اور مخالفت لازم آتی ہے جبکہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہونے کے سبب تضاد و تعارض سے پاک ہے۔

مزید وضاحت کے لیے فقیہِ اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی علمائے عرب کی فرمائش پر لکھی گئی شہرہ آفاق کتاب "الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّة" اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "اَلْكَلِمَةُ الْعُلْيَا" کا مطالعہ مفید رہے گا۔

http://t.me/tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دوسراباب

افراد کے اعمال

اور

دِلوں کی دُنیا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمِ پاک

4۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اُحد والوں کے لیے نماز پڑھی جس طرح مُردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر کی طرف آئے اور فرمایا:

اِنِّیْ فَرَطٌ لَّکُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّیْ لَاَ نْظُرُ اِلٰی حَوْضِی الْاٰنَ وَاِنِّیْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَ اِنِّیْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِیْ وَلٰكِنِّیْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا

"بیشک میں تمہارا سہارا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور میں اس وقت اپنے حوض کو یقینی دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں یا زمین کی کنجیاں بیشک اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں بلکہ تمہارے دنیا میں پھنسنے کا ڈر ہے"

﴿بخاری کتاب الجنائز باب الصلوۃ علی الشہید 1/179۔ کتاب المغازی باب اُحُدٌ یُحِبُّنَا۔ کتاب الرقاق باب مایحذر من زهرة الدنیا 2/951۔ کتاب فی الحوض 02/975﴾

......وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ......

"اور میں تم پر حاضر و ناظر اور گواہ ہوں"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

لفظ شہید کی تحقیق:

مفردات امام راغب ص 264 بیروت میں ہے:

اَلشُّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْبِالْبَصِيْرَةِ

''شہود اور شہادت کا معنی حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے۔ یہ بصر یعنی آنکھ کے ذریعے ہو یا بصیرت کے ذریعے ہو''

معتبر تفاسیر میں حضور ﷺ کے شہید ہونے سے کیا مراد لیا گیا ہے؟

☆ ''تمہارے رسول ﷺ روز قیامت تم پر گواہ ہیں کیونکہ وہ نُورِ نبوت سے ہر صاحب دین کے رتبہ و درجہ ایمان اور (ترقی کے راستے کا) حجاب جانتے ہیں۔ ہر اُمتی کے گناہوں، نیک و بد اعمال اور خلوص و نفاق سے واقف ہیں۔ اس لئے آپ (ﷺ) کی گواہی اُمت کے حق میں ازروئے شرع مقبول و منظور ہے''

﴿تفسیر عزیزی زیرِ آیت 43۔ سورۃ البقرہ، ص 580 پارہ سیقول، ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی﴾

☆ ''اور حضور ﷺ کے مسلمانوں پر گواہی دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہر دین دار کے دینی مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ پس آپ مسلمانوں کے گناہوں کو، ان کے ایمان کی حقیقت کو، ان کے اچھے برے اعمال کو، ان کے خلوص اور نفاق وغیرہ کو نورِ حق سے پہچانتے ہیں''

﴿تفسیر روح البیان زیرِ آیت 143 سورۃ البقرہ﴾

☆ ''آپ ﷺ کی رُوح مبارک تمام رُوحوں، جانوں اور دلوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے...... اللہ نے سب سے پہلے میرے نُور کو پیدا فرمایا''

﴿تفسیر نیشاپوری زیرِ آیت نمبر 41 سورۃ النساء﴾

☆ علی من بعث علیھم بتصدیقھم و تکذیبھم و نجاتھم و ضلالھم

﴿تفسیر بیضاوی زیرِ آیت 45 سورۃ احزاب، 379/4 دارالفکر بیروت﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے، انکار کرنے والوں، نجات والوں اور گمراہوں پر گواہ ہیں“

اختصار کے پیشِ نظر ان چند تفاسیر کی عبارات پیش کی گئی ہیں ورنہ تفسیر جمل ج 03 ص 442، تفسیر کبیر ج 06 ص 788، تفسیر روح المعانی آیت نمبر 45 سورۃ احزاب، تفسیر ابو سعود جزو 06 ص 790۔ تفسیر مدارک زیر آیت 41 سورۃ النساء اور دیگر معتبر تفاسیر میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔

اشرف علی تھانوی صاحب کا بیان:

پہلی روایت ابن مبارک نے حضرت سعید بن المُسَیّب سے کی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اُمت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہوں۔

﴿نشر الطیب ص 140 مطبوعہ دار الاشاعت اردو بازار کراچی﴾

اسی کتاب کے صفحہ نمبر 142 پر لکھتے ہیں ...... مجموعی روایات سے خلاصۃ علاوہ فضیلتِ حیات و اکرام ملائکہ کے، برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں۔ اعمال اُمت کا ملاحظہ فرمانا، نماز پڑھنا، غذا مناسب، اس عالَم کے نوش فرمانا، سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ، سلام کا جواب دینا...... یہ تو دائماً ثابت ہیں۔

محمد ادریس کاندھلوی کا بیان:

زیر آیت وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَآءِ لکھتے ہیں............ اور ہم لائیں گے تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ یعنی تیری اُمت پر گواہ کہ تو مومنوں کے ایمان کے اور کافروں کے کفر کی گواہی دے۔ ﴿معارف القرآن 04/242 مطبوعہ جامعہ اشرفیہ لاہور﴾

حاصلِ کلام: اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے خلوص و نفاق اور نیک و بد اعمال کا علم و مشاہدہ عطا فرمایا ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

لوگوں کے اعمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم

اس کتاب کے باب "مقامات آخرت کا علم" کے آخر میں احادیث بیان کی گئی ہیں جن میں حضور ﷺ نے کچھ لوگوں کو جہنم کے عذاب میں گرفتار دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مصیبت کے اسباب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضور ﷺ لوگوں کے اعمال وافعال کا علم رکھتے ہیں۔ ہمارے حضور ﷺ کی شان ہی نرالی ہے۔ حدیث پاک میں تو کامل مؤمن کے لئے ارشاد ہوا۔

5- اِتَّقُوْا بِفِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ اِنَّهٗ یَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ ﴿ترمذی کتاب التفسیر سورۃ الحجر﴾

"مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے"

جب ایک کامل مومن کی ایسی شان ہے تو ہمارے حضور ﷺ کی شان کا کیا کہنا۔

اس سے بخوبی واضح ہوا کہ حضور ﷺ ہمارے تمام اعمال وافعال حتیٰ کہ دلوں کی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے یکساں دیکھنا:

6- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا کی اور منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے نماز اور رکوع کے بارے میں فرمایا:

اِنِّیْ لَاَرَاکُمْ مِنْ وَّرَائِیْ کَمَا اَرَاکُمْ

"یقیناً میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح (سامنے سے) دیکھتا ہوں" ﴿بخاری کتاب الصلوۃ باب عظۃ الامام الناس 01/59﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

7- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی کی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا منہ ہماری طرف کر کے فرمایا:

اَقِیْمُوْا صُفُوْفَکُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّیْ اَرَاکُمْ مِّنْ وَّرَآءِ ظَھْرِیْ

﴿بخاری کتاب الاذان باب الزاق المنکب بالمنکب 01/100﴾

''تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو اور جم کر کھڑے ہو میں تمہیں پشت پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں''

نہ خشوع ہے مخفی نہ رکوع پوشیدہ:

8- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِیْ هٰهُنَا فَوَاللّٰهِ مَا یَخْفٰی عَلَیَّ خُشُوْعُکُمْ وَلَا رُکُوْعُکُمْ اِنِّیْ لَاَرَاکُمْ مِّنْ وَّرَآءِ ظَهْرِیْ

﴿بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب عظۃ الامام الناس 01/59﴾

''کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ (میری توجہ) اسی قبلہ کی طرف ہے جبکہ اللہ کی قسم، مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع پوشیدہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی پشت پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں''

تبصرہ:

اس حدیث پاک میں هَلْ تَرَوْنَ کے استفہام کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے قبلہ کی جانب رخ کرنے سے یہ خیال نہ کرنا کہ میری توجہ اور نظر میں بس جہتِ قبلہ ہی ہے اور میں دیگر سمتوں اور جہتوں سے غافل و بے خبر ہوں بلکہ میں نورِ نبوت سے تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں حالانکہ دورانِ نماز تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو کوئی میرے سامنے کی جانب ہو یا پیچھے کی جانب، دور ہو یا نزدیک، ہر ایک کی حالت و کیفیت

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

میرے سامنے رہتی ہے اور تمہارے رکوع تمہارے سجود اور تمہاری صفوں کی ظاہری حالت تو ایک طرف تمہارے خشوع بھی میرے سامنے ہیں۔ آیئے دیکھتے ہیں۔

خشوع کیا ہے؟

''حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: خشوع یہ ہے کہ یہ معلوم بھی نہ ہو کون دائیں طرف ہے اور کون بائیں طرف اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالے''

﴿تفسیر المظہری پ18﴾

''حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خشوع سے مراد ہے قولی اخلاص، تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا، کامل یقین اور پوری توجہ و یکسوئی'' ﴿المظہری پ18﴾

''حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ ہمیں خشوع نِفاق سے محفوظ رکھے۔ شاگردوں نے عرض کیا:

وَمَا خُشُوْعُ النِّفَاقِ............ ''خشوع نفاق کسے کہتے ہیں''

''فرمایا: ظاہری جسم میں تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو''

﴿الدُّرُّ الْمَنْثُور 05/03 بیروت﴾

خلاصہ کلام: خشوع نام ہے بدن کے تواضع، توجہ کی یکسوئی، دل کے خلوص اور محویت و استغراق کا۔ یہ کامل یقین، خلوص اور ماسوی اللّٰہ سے بے التفاتی، اصلاً دل کی کیفیات ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو بہت زیادہ سر جھکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ سر اٹھاؤ کیونکہ جتنا خشوع دل میں ہے اس سے زیادہ کا اظہار نہ کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ اَلْخُشُوْعُ محلّهُ الْقَلْبِ۔ ''خشوع تو دل میں ہوتا ہے''

﴿الجامع الاحکام القرآن للقرطبی ج12 ص103 بیروت لبنان﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

9- حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کی یہ دعا روایت کرتے ہیں کہ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو"

﴿مسلم شریف کتاب الذکر والدعا باب فی الادعیه 02/350﴾

اس تفصیل سے بالوضاحت معلوم ہوا کہ خشوع ظاہری و باطنی استغراق وانہماک کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کا اصل مقام ومرکز دل ہے۔

اس تشریح کی روشنی میں زیر گفتگو حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ہمارے حضور ﷺ نمازوں کی ظاہری حالت کے علاوہ دلی کیفیت سے بھی آگاہ ہیں۔

حضور ﷺ کے چاہنے والے تو ایسی احادیث پڑھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ انہیں تو یہ جان کر سکون واطمینان ملتا ہے کہ ہمارے آقا ﷺ ہم پر نظر رکھتے ہیں مگر بعض لوگ حضور ﷺ کو غافل و بے خبر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو عبث ہلکان کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔

دل کی بات جان لی حضور ﷺ نے:

10- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بھوک کے باعث میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا اور کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا۔ ایک روز میں لوگوں کی عام گزرگاہ پر بیٹھ گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی۔ میں نے اسی لیے سوال کیا تھا کہ مجھے کھانا کھلا دیں لیکن وہ گزر گئے اور ایسا نہ کیا۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے بھی قرآن پاک کی ایک آیت پوچھی اور ان سے بھی کھانے کیلئے ہی سوال کیا تھا تو وہ بھی گزر

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

گئے اور انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔

ثُمَّ مَرَّبِیْ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِیْنَ رَاٰنِیْ وَعَرَفَ مَافِیْ نَفْسِیْ وَمَا فِیْ وَجْھِیْ

پھر میرے پاس سے حضرت ابوالقاسم ﷺ گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے کیونکہ آپ ﷺ نے جان لیا جو کچھ میرے دل میں تھا اور جو میرے چہرے پر تھا۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی ﷺ 02/955﴾

حدیث بالا میں وَعَرَفَ مَافِیْ نَفْسِیْ (اور حضور ﷺ نے جان لیا جو میرے دل میں تھا)............ کے الفاظ حضور ﷺ کے دوسروں کے دلوں کی حالت و کیفیت پر غیبی اطلاع واضح کرنے کے لئے ایسے صریح ہیں کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔

11- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو شخص آئے۔ ایک قبیلۂ انصار کا تھا اور دوسرا ثقیف کا۔ انصاری نے پہل کی۔ رسول کریم ﷺ نے ثقفی سے فرمایا: اے ثقفی! انصاری نے تم پر پہل کر لی ہے۔ انصاری نے کہا: یارسول اللہ (ﷺ)! میں خود اس کو مقدم کرتا ہوں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے ثقفی! اپنی حاجت بیان کرو اور اگر تم چاہو تو میں خود بیان کردوں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟۔ ثقفی نے کہا: اگر آپ ایسا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اپنی نماز، رکوع اور سجود کے اور روزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہو کہ ان اعمال کا اجر کیا ہے؟

ثقفی نے کہا: ہاں خدا کی قسم! جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے (آپ ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا)۔ پھر آپ ﷺ انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم اپنی حاجت بیان کرو اور اگر تم چاہو تو میں تمہارا سوال بتادوں؟ انصاری نے کہا: اگر آپ ﷺ خود بیان فرمائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم مجھ سے یہ سوال

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کرنے آئے ہو کہ وقوف عرفہ کا کیا طریقہ ہے اور اس میں تمہارے لئے کیا اجر ہے؟ اور کنکریاں مارنے کا کیا طریقہ ہے اور اس میں تمہارے لئے کیا اجر ہے؟۔ آپ ﷺ نے انصاری کے سوال کا بھی تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ ﴿مصنف عبدالرزاق ج 05 ص 15﴾

دل کا وسوسہ بھی آپ ﷺ کی نظر میں ہے:

12- حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھا۔ ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا اور نماز میں قرآن پاک کی ایسی قرأت کی جو میرے لئے اجنبی (غیر مانوس) تھی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے ایک اور طرح سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو سب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے اس طرح قرآن پڑھا جو میرے لئے غیر مانوس تھا اور دوسرا شخص آیا تو اس نے اس کے علاوہ ایک اور قرأت کی۔ حضور ﷺ نے ان دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا اور حضور ﷺ نے ان دونوں کو درست قرار دیا......

فَسَقَطَ فِیْ نَفْسِیْ مِنَ التَّکْذِیْبِ وَلَا اِذْ کُنْتُ فِی الْجَاھِلِیَّۃِ

"تو میرے دل میں ایسی تکذیب پیدا ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھی"

فَلَمَّا رَاٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَاقَدْ غَشِیَنِیْ ضَرَبَ فِیْ صَدْرِیْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَّ کَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَی اللّٰہِ تَعَالٰی فَرَقًا

﴿مسلم کتاب فضائل القرآن باب بیان القرآن انزل علی سبعۃ احرف 01/273﴾

"پس جب حضور ﷺ نے میرے اس حال کو دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا (اور میری یہ حالت ہو گئی) گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں"

اس حدیث پاک کے الفاظ...... فَلَمَّا رَاٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ مَاقَدْ غَشِیَنِیْ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

...... جہاں ایک طرف حضور ﷺ کی دلوں کی حالت و کیفیت پر آگاہی کا اعلان کر رہے ہیں وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ عقیدے کی عکاسی بھی کر رہے ہیں۔

اِدھر ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، اُدھر حضور ﷺ نے دل کی حالت دیکھ لی بلکہ سینے پر ہاتھ مار کر اُن کو بُرے وسوسے سے محفوظ کر کے اپنے تصرُّف کا بھی اظہار فرمادیا۔

اب بتایئے کیا وسوسہ کسی ظاہری ہیئت و حرکت رکھنے والی کسی مجسم شے کا نام ہے؟ اور پھر کیا حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اپنا دل اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا کہ ہر گزرنے والا دیکھ لے؟

13- ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال جب حضور ﷺ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عمر لیثی نے آپ ﷺ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ پس جب وہ قریب ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: فضالہ ہو کیا؟ کہا' ہاں یا رسول (ﷺ) اللہ! فضالہ ہوں۔ فرمایا: تو دل میں کیا منصوبہ تیار کر رہا تھا؟ کہا: کچھ بھی نہیں، میں تو ذکرِ الٰہی کر رہا تھا۔ آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر حضور ﷺ نے اپنا دستِ مبارک فضالہ کے سینے پر رکھا تو انہیں دلی سکون میسر ہوا۔ فضالہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! حضور ﷺ نے اپنا دستِ اقدس میرے سینے سے ابھی اٹھایا نہیں تھا کہ میری یہ کیفیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی چیز بھی میرے نزدیک حضور ﷺ سے زیادہ محبوب نہیں تھی۔

﴿سیرت ابن ہشام اردو 02/494﴾

بخاری و مسلم کی ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو لوگوں کے اعمال و افعال اور دلوں کے حالات و کیفیات کا غیبی علم عطا فرمایا ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تیسرا باب

http://t.me/Tehqiqat

دور و نزدیک یکساں دیکھنا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مُوتہ کا میدان مدینہ میں دیکھا

10- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ نَعٰى زَيْدًا وَّجَعْفَرًا وَّابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

﴿بخاری کتاب الجنائز باب الرّجل ینعٰی 167/01، کتاب المناقب باب مناقب خالد بن الولید 531/1، کتاب المغازی باب غزوہ موتہ 611/2﴾

"حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت زید، حضرت جعفر، اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی خبر آنے سے پہلے (ان کے شہید ہو جانے کے متعلق) لوگوں کو بتا دیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اب جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ شہید کر دیئے گئے۔ پھر جھنڈا جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ (یہ فرماتے ہوئے) حضور ﷺ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے اور (اس کے ہاتھوں) اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا کی"

یہ غزوہ موتہ کا تذکرہ ہے۔ حضور ﷺ نے 08ھ میں دو ہزار مسلمانوں کا ایک لشکر

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رومیوں سے لڑنے کے لئے روانہ فرمایا۔ بوقت روانگی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو اپنا امیر بنا لینا اور ان کی شہادت کی صورت میں ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہو امیر چن لینا۔

جس روز رومیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کا آغاز ہوا، حضور ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لڑائی کا حال یوں بیان فرمانا شروع کر دیا گویا لڑائی کا میدان و منظر آپ ﷺ کے سامنے ہے۔

مقامِ غور ہے کہ موتہ مدینہ طیبہ سے بہت دور واقع ملک شام کا ایک صوبہ ہے۔ اگر حضور ﷺ کو دور و نزدیک کا علم و مشاہدہ حاصل نہیں تو آپ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے لڑائی کا پورا منظر کیسے بیان کر دیا؟

اس حدیث پاک سے صراحتاً معلوم ہوا کہ حضور ﷺ دور والے افراد اور اشیاء و کیفیات کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے نزدیک والے افراد اور اشیاء و کیفیات کو۔

حضور ﷺ کے علم و مشاہدے کی وسعت پر صریح دلالت رکھنے والی اس حدیث پاک کے باوجود "براہین قاطعہ" نامی کتاب کا ایک جملہ پڑھ کر بہت حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ مصنف نے علمِ نبوت کی اہانت و تنقیص پر مبنی اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ ڈالا کہ حضور ﷺ کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں اور طرفہ تماشا یہ کہ اس بے اصل جملہ کی تحریف کرتے ہوئے اس کا اطمینان حضرت شیخ محقق، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا جب کہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا بے اصل ہونا صراحتاً بیان کیا ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دیوار تو دیوار سوراخ بھی دیکھ لیا:

15- عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًّا وَّجْهُهٗ یَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَیْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْیَوْمَ مِنْ رَدْمِ یَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاُصْبَعِهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِیْ تَلِیْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَ فِیْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

﴿مسلم کتاب الفتن واشراط الساعۃ فصل خروج یاجوج ماجوج 02/388﴾

"حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم ﷺ گھبرائے ہوئے نکلے۔ آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ ﷺ فرما رہے تھے، لا الٰـــہ اِلّا اللّٰــہ، جس شر میں عرب کی خرابی ہے وہ نزدیک آگیا۔ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ ﷺ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا۔ میں نے کہا: یارسول اللہ (ﷺ)! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں صالحین موجود ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں جب خبیثوں کی کثرت ہو جائے گی"

حضور ﷺ کے مثـــل هـــذه (اتنا، اس کی طرح) فرماتے ہوئے اس سوراخ کی کشادگی ظاہر کرنے کے لئے انگوٹھے اور انگلی کا حلقہ بنانے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی نظر نبوت سے اس دیوار کے سوراخ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور ﷺ کا ایسی دیوار کو دیکھنا جو نا معلوم زمین کے کس خطے میں واقع ہے، بلا ریب واضح کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے علم اور رُویت ومشاہدے کے لئے دور ونزدیک کی کوئی قید واہمیت نہیں۔ آپ ﷺ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طویل فاصلے پر واقع افراد واشیاء کائنات کو بھی ایسا یقینی اور قطعی طور

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پر دیکھتے ہیں جیسے اپنے سامنے کے نزدیک والے افراد و اشیاء کو دیکھتے ہیں۔

16- مزید برآں حضرت بَراء بن عازِب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کھودتے وقت ایک سخت پتھر توڑنے کے لئے حضور ﷺ نے کدال ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی کہ ایک تہائی پتھر ٹوٹ گیا۔ اس وقت حضور ﷺ نے فرمایا:

اَللّٰهُ اَکْبَرُ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ الْفَارِسِ وَاللّٰهِ لَاُبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَآئِنِ الْاَبْیَضَ

"مجھے ملک فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں اور میں اس وقت مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں"

پھر دوسری ضرب لگائی، ایک تہائی پتھر ٹوٹ گیا۔ پھر فرمایا:

اَللّٰهُ اَکْبَرُ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ الشَّامِ...... "مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں"

پھر تیسری ضرب لگائی اور سارا پتھر چکنا چور کر دیا اور فرمایا:

اَللّٰهُ اَکْبَرُ اِنِّیْ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ الْیَمَنِ وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَاُبْصِرُ اَبْوَابَ صَنْعَآءَ مِنْ مَّکَانِیَ السَّاعَةَ

"مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں، واللہ میں یہاں سے شہر صنعا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں"

قاضی سلمان منصور پوری کا تبصرہ:

بیہقی و ابونعیم کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد قاضی صاحب، اپنی تصنیف "رحمۃ للعالمین" مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور ج 03 ص 208 پر لکھتے ہیں۔

یہ پیشین گوئی اس وقت فرمائی تھی جب مدینہ پر کفار کے عساکر حملہ آور ہو رہے تھے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اوران سے بچاؤ کے لئے شہر کے اردگرد خندق کھودی جارہی تھی۔ایسے ضعف کی حالت میں اتنے ممالک کی فتوحات کی اطلاع دینا اللہ کے نبی ہی کا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف پورا فرمادیا۔

نظر کا سفر، مدینہ سے حبشہ:

17- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نَعٰی لَھُمُ النَّجَاشِیَّ صَاحِبَ الْحَبْشَۃِ فِی الْیَوْمِ الَّذِیْ مَاتَ فِیْہِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَ خِیْکُمْ

"(حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے شاہ حبشہ نجاشی کے وفات پانے کی خبر اپنے اصحاب کو اسی روز دے دی تھی جس روز وفات ہوئی اور فرمایا: اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو"

مزید یہ بھی ہے:

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِھِمْ فِی الْمُصَلّٰی فَصَلّٰی عَلَیْہِ وَکَبَّرَ عَلَیْہِ اَرْبَعًا

"رسول اللہ ﷺ نے جنازہ گاہ میں صفیں بنائیں اور چار تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی"

﴿بخاری کتاب الجنائز کتاب المناقب باب موت النجاشی 548/01۔ مسلم کتاب الجنائز باب الصلوۃ علی الجنائز بالمصلّٰے 309/1177/01﴾

حبشہ کے شاہ اصحمہ نجاشی نے اسلام کے اوصاف اور حضور ﷺ کے اخلاق سن کر اسلام قبول کرلیا تھا اور ان کی کمال خوش نصیبی کہ ان کا اسلام قبول کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی بارگاہ میں مقبول ہوگیا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں میلوں کی مسافت سے ان کے انتقال کی خبر اسی روز اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو دے دی۔ اس دور میں تار، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی ویژن جیسے فوری خبر رسانی کے ذرائع موجود نہ تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز نجاشی کا وفات پا جانا کیسے جان لیا؟ اس کا واحد جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم و کریم اور قادر و قدیر رب تعالیٰ نے نجاشی کے انتقال کا غیبی علم عطا کر دیا تھا۔

مکہ میں شہید ہونے والے کا مدینہ میں تذکرہ:

18- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کو روانہ فرمایا جن میں حضرت خبیب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ زُہری کو عبید اللہ بن عیاض نے اور انہیں حارث کی بیٹی نے بتایا کہ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے مجھ سے اُسترا مانگا۔ جب لوگ انہیں قتل کرنے کے لئے حرم سے نکلے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے چند اشعار پڑھے۔ پس حارث کے بیٹے نے انہیں شہید کر دیا۔

فَاَخْبَرَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهٗ خَبَرَهُمْ یَوْمَ اُصِیْبُوْا

"چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا جس روز انہیں شہید کیا گیا"

﴿بخاری کتاب التوحید باب ما یذکر فی الذّات 02/1100﴾

(واقعہ کی تفصیل بخاری کتاب الجہاد باب ھل یستاسر الرّجل 01/427 میں ہے)

ایسی سماعت پہ لاکھوں درود، ایسی بصارت پہ لاکھوں سلام:

19- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پھر مجھ پر وحی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند ہو گیا تو ایک روز میں جا رہا تھا کہ میں نے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

آسمان سے ایک آواز سنی۔ پس میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین وآسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔

﴿بخاری کتاب الادب باب رفع البصر الی السمآء 02/917﴾

20- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ ﷺ نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ پتھر ہے جس کو ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، یہ اب تک اس میں گر رہا تھا اور اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ ﴿مسلم کتاب الجنۃ 03/381﴾

اِدھر منافق مرا، اُدھر حضور ﷺ نے خبر دے دی:

21- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر سے تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بہت زور سے آندھی چلی کہ سوار زمین میں دھنسنے کے قریب ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا مُنَافِقٌ عَظِيْمٌ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْمَاتَ ﴿مسلم کتاب صفات المنافقین 02/370﴾

"یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لئے بھیجی گئی ہے۔ جب آپ ﷺ مدینہ منورہ پہنچے تو منافقوں میں سے ایک بڑا منافق مر چکا تھا"

کہاں فارس، کہاں مدینہ:

22- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَدْمَاتَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَاِذَاهَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بَعْدَهٗ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَتُنْفِقُنَّ کُنُوْزَ هُمَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ

﴿مسلم کتاب الفتن واشراط الساعۃ فصل فی حلاک کسریٰ وقیصر 02/396﴾

''کسریٰ مر گیا اس کے بعد کسریٰ نہیں ہوگا اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے' تم ان کے خزانے لے کر ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے''

ساری زمین نگاہِ نبی ﷺ میں:

23- عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ نَبِیَّ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ زَوٰی لِیَ الْاَرْضَ حَتّٰی رَاَیْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاَعْطَانِی الْکَنْزَیْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْیَضَ ﴿مسلم کتاب الفتن 02/390﴾

''حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لئے لپیٹ دیا حتی کہ میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ و سفید دو خزانے عطا فرمائے''

لیجئے اس حدیث پاک نے معاملہ بالکل صاف کر دیا اور ''یہ دیکھا وہ نہ دیکھا'' کی بحث کا قطعی فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور ﷺ کے لئے ساری زمین سمیٹ کر ہر شے دکھا دی۔ حضور ﷺ نے اپنے اس وسیع مشاہدے کو......اِنَّ...... کی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ کسی کو آپ ﷺ کے علم و مشاہدے کے بارے میں کوئی شک نہ رہے اور پھر قرآن و حدیث کا گہرا اور مربوط مطالعہ کرنے والوں کو شک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں نہیں فرمایا؟

وَکَذٰلِکَ نُرِیْ اِبْرٰهِیْمَ مَلَکُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ○

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قادر مطلق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہتیں دکھا دیں۔

ہمارے حضور ﷺ تو کل انبیاء کے سردار ہیں اور کوئی فضیلت اور درجہ و کمال ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی علیہ السلام کو تو ملا ہو مگر حضور ﷺ کو نہ ملا ہو بلکہ تمام انبیاء کے جملہ کمالات زیادہ اکمال اور شان و شوکت کے ساتھ حضور ﷺ کو عطا ہوئے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں اور اپنی شانیں دکھادیں تو ہمارے حضور ﷺ کی نگاہوں سے کوئی شے کیسے پوشیدہ رہتی؟

دل کے مزید اطمینان کے لئے یہ حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو:

24- فَرَاَيْتُهٗ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُّ بَرْدَ اَنَامِلِهٖ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلّٰى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَّعَرَفْتُ

﴿ترمذی ابواب تفسیر القرآن تفسیر سورۃ ص﴾

''تو میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا اس نے اپنا دستِ قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پس میرے لئے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز پہچان لی'' (اس حدیث پاک کو حافظ ابنِ کثیر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد و ترمذی کے حوالہ سے نقل کیا ہے)

25- ایک دوسری حدیث پاک میں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کے الفاظ ہیں کہ میں نے جان لیا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔

محترم قارئین! اگر انصاف دنیا سے رخصت نہیں ہوا تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتایئے کہ اس قدر واضح آیات و احادیث کے باوجود بھی حضور ﷺ کے علم پاک کی وسعت تسلیم کرنے کی بجائے اگر مگر کے اینچ پینچ سے آپ ﷺ کو غافل و بے خبر ثابت کرنے کی کوشش کرنا ضد اور ہٹ دھرمی نہیں تو کیا ہے؟ کیا کسی امتی کہلانے والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اپنے نبی ﷺ کی رفعت وعظمت اور شان وشوکت کے ذکر پاک پر خوش ہونے کی بجائے ناک بھوں چڑھائے؟ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔

حواشی

1 اللہ تعالیٰ نے تمام پردے اٹھا کر حضرت اصحمہ نجاشی کا جنازہ حضور ﷺ کے پیش نظر کر دیا۔ لہٰذا اس سے نماز غائبانہ جنازہ پر استدلال کرنا درست نہیں۔ اس مسئلہ کی علمی تحقیق کے لئے حضرت مولانا مفتی احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "الہادی الحاجب عن جنازۃ الغائب" کا مطالعہ فرمائیں۔

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

چوتھا باب

مَا فِیْ غَدٍ
مَا ذَا تَکْسِبُ غَدًا
مَا فِی الْاَرْحَامِ
کا علم

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

یہ علم تو فرشتے کو بھی حاصل ہے:

26- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَارَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّقْضِيَ خَلْقَهٗ قَالَ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْاَجَلُ قَالَ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ

﴿بخاری کتاب الحیض باب قول اللّٰہ تعالیٰ مخلّقة وغیر مخلّقه 46/01۔کتاب القدر باب فی القدر 02/975﴾

"حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے، پروردگار نطفہ پڑ گیا، پروردگار اب خون بن گیا، پروردگار اب گوشت کا لوتھڑا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تخلیق مکمل کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، مرد یا عورت، بد بخت یا نیک بخت، رزق کتنا اور عمر کتنی؟ فرمایا: پھر وہ فرشتہ (سب کچھ) ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے"

فرشتے کو رزق اور انجام بھی معلوم ہے:

27- حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اَنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهٗ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعٍ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَوْسَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ

﴿بخاری کتاب الانبیاء باب خلق آدم وذریته اذ قال ربك للملائکة 1/469﴾

''(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے) رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا جو صادق ومصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس روز اسی طرح (نطفے کی صورت میں) رہتا ہے۔ پھر وہ چالیس روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے۔ پھر وہ گوشت کی بوٹی بن کر اتنے ہی دن رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ وہ چار باتیں لکھ آئے۔ (1) اس کا عمل (2) اس کی موت (3) اس کا رزق (4) بدبخت یا نیک بخت۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحم مادر پر مقرر فرشتے کو مندرجہ ذیل علومِ غیبیہ عطا فرماتا ہے:

(1) مافی الارحام (ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے؟) کا علم۔

(2) ہر انسان کے عمل کا علم جو وہ آئندہ زندگی میں کرے گا۔ (قرآنی اصطلاح میں اس علم کو مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کا علم بتایا گیا ہے۔

(3) یہ علم کہ دنیا میں بھیجا جانے والا یہ انسان نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ بڑی نیک بختی تو یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور بڑی بدبختی یہ کہ مرتے وقت ایمان والا نہ ہو۔ گویا اس فرشتے کو انسان کے انجام کا علم بھی عطا کیا گیا ہے۔

(4) پوری زندگی کے رزق کا علم۔

(5) عمر کا علم یعنی یہ انسان کب تک اس دنیا میں رہے گا اور کب اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا؟ گویا زندگی کے اختتام یعنی موت کا علم بھی اس فرشتے کو حاصل ہے۔

احادیث میں یہ بھی ہے کہ آسمانوں پر مختلف امور کیلئے مقرر فرشتوں کو ہر سال

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

شبِ برأت یا شبِ قدر میں سال بھر کیلئے احکامات کی فہرست مل جاتی ہے۔ ان سب لوگوں کے نام بھی فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں جو اس سال مرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورۃ دخان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوحِ محفوظ سے ان چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں کہ اتنا اتنا رزق دیا جائے گا۔ فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں حج کو جائے گا۔ اس سمیت اس مضمون کی کئی دیگر احادیث کو دیوبندی تبلیغی جماعت کے عالم محمد زکریا سہارنپوری نے اپنے رسالہ "موت کی یاد" میں بھی صفحہ 100 پر نقل کیا ہے۔

ان تمام احادیث سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے سبب اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے، رحمِ مادر کا علم، آئندہ عمل کا علم، بارش کا علم اور وقتِ موت کا غیبی علم عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں (سورہ لقمان: 34) سمیت جہاں علمِ غیب کی مخلوق کی نفی کا بیان ہے وہاں یہی مطلب ہے کہ کوئی اس کے بتائے بغیر ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا۔ رہا اس کا عطا سے غیب جاننا تو وہ تو ان احادیثِ صحیحہ سے خوب واضح ہو چکا۔

کل کیا ہوگا اور علی (رضی اللہ عنہ) کل کیا کریں گے؟

28- حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَّفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَقِيْلَ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِيَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهٗ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

فَبَرَأَ حَتّٰى كَاَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ

﴿بخاری کتاب الجہاد باب ما قیل فی لواء النبی ﷺ 01/417، کتاب المناقب باب مناقب علی بن ابی طالب 01/525، کتاب المغازی باب غزوہ خیبر 02/605﴾

"رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے روز فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ﷺ اسے دوست رکھتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھئے جھنڈا کس کو عطا ہوتا ہے؟ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سب یہی تمنا لے کر آئے تھے کہ جھنڈا مجھے مل جائے"

29- مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اس دن کے علاوہ میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی، پھر میں اس دن آپ ﷺ کے سامنے اس اُمید کے ساتھ آیا کہ آپ ﷺ اس کیلئے مجھے بلائیں (مسلم کتاب الفضائل صحابہ) آپ ﷺ نے فرمایا: علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! ان کی آنکھیں دُکھتی ہیں (بقول راوی) پھر انہیں بلایا گیا۔ وہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کیلئے دعا کی تو وہ ایسے شفایاب ہوئے جیسے تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ پس جھنڈا انہیں عطا فرمایا گیا۔

30- مسلم شریف کی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں...... فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ...... تو اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دے دی۔

﴿مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل علی بن ابی طالب 02/279﴾

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ نے یہ بھی بتا دیا کہ کل کیا ہوگا (مَافِیْ غَدٍ) اور یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کل کیا کریں گے (مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا)۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مستقبل کی باتیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ:

31- حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے آ کر فاقے کی شکایت کی پھر دوسرا شخص آیا اور ڈاکہ زنی کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عدی رضی اللہ عنہ! کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا: دیکھا تو نہیں سنا ضرور ہے۔ فرمایا: تمہاری عمر نے وفا کی تو۔

لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

"تم ضرور دیکھو گے کہ ایک بڑھیا حیرہ سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی لیکن اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا"

حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس وقت قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کو کیا ہو جائے گا جنہوں نے آج شہروں میں آگ لگا رکھی ہے؟ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو...... لَتُفْتَحُنَّ كُنُوْزَ كِسْرٰى ...... تو تم ضرور کسریٰ کے خزانوں کو فتح کر لو گے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: کیا کسریٰ بن ہرمز کے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو ضرور دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی کے برابر سونا لے کر نکلے گا یا چاندی لے کر تلاش کرے گا کہ کوئی قبول کرے لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ (اس کے بعد آپ ﷺ نے روز حساب کے بارے میں بیان فرمایا اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی نصیحت فرمائی)۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑھیا نے حیرہ سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ تھا اور میں ان حضرات میں خود شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے تھے اور اگر میری عمر نے وفا کی تو نبی کریم، ابو القاسم ﷺ نے جو

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

فرمایا تھا کہ ایک آدمی ہتھیلی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا، میں اسے بھی ضرور دیکھ لوں گا"

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 01/507﴾

امام بیہقی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی سلطنت میں تیسری بات بھی پوری ہوگئی کہ زکوٰۃ دینے والے کو تلاش سے بھی کوئی فقیر نہ ملتا تھا اور وہ اپنا مال گھر واپس لے جایا کرتا تھا۔ ﴿رحمۃ للعالمین ج 03 ص 208 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور﴾

حضور ﷺ کا علم پاک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

32- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ...... فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰی ذَالِكَ اَتَاهُ اَحَدُبَنِی اَبِی الْحُقَیْقِ فَقَالَ یَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَ عَامَلَنَا عَلَی الْاَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَالِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَنِّیْ نَسِیْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: كَیْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْ خَیْبَرَ تَعْدُوْبِكَ قَلُوْصُكَ لَیْلَةً بَعْدَ لَیْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هٰذِهٖ هُذَیْلَةً مِنْ اَبِی الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ یَاعَدُوَّ اللّٰهِ فَاَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَاَعْطَاهُمْ قِیْمَةَ مَاكَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَّاِبِلًا وَّعُرُوْضًا مِّنْ اَقْتَابٍ وَّحِبَالٍ وَّغَیْرِ ذَالِكَ

﴿بخاری کتاب الشروط باب اذا اشترط فی المزارعۃ 01/377﴾

"حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (یہودیوں کو جلاوطن کرنے کا) پختہ ارادہ کرلیا تو ابوالحقیق یہودی کے خاندان سے کوئی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین! آپ ہمیں کیوں نکال رہے ہیں جبکہ حضرت محمد ﷺ نے ہمیں برقرار رکھا تھا اور یہاں کی زمینوں کے بارے میں ہم سے معاہدہ کیا تھا اور یہ ہمارے لئے شرط تھی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کیا تمہارا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

یہ گمان ہے کہ میں حضور ﷺ کا وہ فرمان بھول گیا ہوں جبکہ آپ ﷺ نے تم سے فرمایا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا اور تیرا اونٹ تجھے لئے ہوئے راتوں کو مارا مارا پھرے گا۔ وہ کہنے لگا یہ تو ابو القاسم رسول ﷺ نے از راہ مذاق کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے خدا کے دشمن! تو نے غلط بیانی کی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلا وطن کردیا اور ان کو ان کے میوہ جات، اونٹوں، آلات زراعت، عمارتوں اور رسیوں وغیرہ چیزوں کی قیمت ادا کردی''

حضور ﷺ نے اس یہودی سے فتح خیبر کے بعد 07ھ میں فرمایا تھا کہ تو جلا وطن کردیا جائے گا جبکہ اسے عہد فاروقی میں جلاوطن کیا گیا۔ یعنی حضور ﷺ نے برسوں پہلے اس شخص کی جلاوطنی کی خبر دے دی تھی اور خبر بغیر علم کے کیسے دی جاسکتی ہے؟

دوسری بات، جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضور ﷺ کے علم پاک کو تسلیم کرنا، یہ حضور کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پختہ یقین تھا کہ جب حضور ﷺ نے اس شخص کی جلاوطنی کی خبر دے دی ہے تو جلاوطن ہوکر دربدر پھرنا اس کا مقدر ہے۔ اس کے برعکس حضور کے علم پاک کا انکار کرنا یا اسے محض مذاق سمجھتے ہوئے حقیقت پر محمول نہ رکھنا، یہ اس یہودی کا عقیدہ ہے۔

اللہ پاک ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والے سچے عقیدے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصائب کا علم:

33- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک باغ میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ ایک شخص آیا اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا۔ آپ ﷺ نے آنے والے کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دروازہ کھولنے کو کہا۔ حضور ﷺ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور جنت کی بشارت سنائی ...... پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ حضور ﷺ نے اجازت دیتے ہوئے ان کے لیے فرمایا:

وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيبُهُ اَوْتَكُوْنُ

"اسے جنت کی بشارت دو اس مصیبت کے ساتھ جو اسے پہنچے گی"

﴿بخاری کتاب الادب باب من نکت العود 918/02، کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ الفتنة من قبل المشرق 1051/2﴾

"پس میں نے ان کے لئے دروازہ کھول دیا اور انہیں جنت کی بشارت دے کر وہ بات بتائی جو حضور نے فرمائی تھی"

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا:...... اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ "اللہ مدد کرنے والا ہے"

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر بن خطاب 522/01﴾

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ جنتی ہیں۔ اس سے ان حضرات کا اللہ و رسول کے ہاں مقبول مقام و مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے بارے میں برا گمان رکھنا، بدعقیدگی اختیار کرنا یا (معاذ اللہ) بدگوئی کرنا انتہائی نامناسب اور نقصان دہ ہے۔

حضور ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا کہ ان کو بڑی مصیبت پہنچے گی۔ چنانچہ لوگوں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بہت ناپسندیدہ اور ناحق امور منسوب کیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور کئی روز تک پانی بند کر کے پیاسا رکھا گیا اور بالآخر 17 ذی الحجہ 35ھ کو دردناک انداز میں آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا جس سے ظاہر ہوا کہ وہ حضور ﷺ کے علم پاک کے قائل تھے ورنہ آج کل کے بعض لوگوں کی طرح کہہ دیتے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کہ حضور ﷺ! آپ ﷺ غیب کی بات کیا جانیں؟ آپ ﷺ دوسرے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں (معاذ اللہ) بلکہ انہوں نے اللہ المستعان فرما کر اپنے پاکیزہ عقیدے کا اظہار کر دیا۔

برسوں بعد ہونے والے واقعہ کا علم:

34- سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اِلٰى جَنْبِهٖ يَنْظُرُ اِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَّاِلَيْهِ مَرَّةً وَّيَقُوْلُ اِبْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ وَّلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین 01/530﴾

"(حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ) میں نے حضور ﷺ کو منبر پر دیکھا (سنا) اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پہلو میں تھے۔ کبھی آپ ﷺ لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کی طرف۔ میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا"

معلومات:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ 03ھ میں پیدا ہوئے۔ حضور ﷺ نے ان کی پیدائش سے قبل ہی حضرت اُمِ فضل کو ولادت کی خبر دے دی تھی۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سترہ رمضان المبارک 40ھ میں خلیفہ ہوئے۔ چالیس ہزار سے زائد مسلمانوں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سات ماہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے آپ رضی اللہ عنہ پر فوج کشی کی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی لشکر تیار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

چلے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لشکر دیکھ کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو واپس نہ ہوگا بلکہ دوسروں کو بھگا دے گا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر دونوں لشکر باہم متحارب ہو گئے تو دونوں جانب سے مسلمانوں کا بہت خون بہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا اور خلافت سے دست برداری کی پیشکش کر دی جس کے نتیجہ میں 41ھ میں آپس میں صلح ہو گئی۔ یوں مسلمان خون ریزی سے محفوظ رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت وقیادت کے لیے تمام مسلمانوں میں اتفاق ہو گیا۔

عنوان میں بیان کردہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آخر 40ھ اور مابعد کے مندرجہ بالا تمام حالات حضور ﷺ کے سامنے تھے۔ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک جماعت کی امارت وقیادت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگی اور بالآخر حضرت حسن رضی اللہ عنہ لڑنے کی بجائے صلح کا ذریعہ بنیں گے اور یوں یہ لڑائی ٹل جائے گی۔ بتائیے: کیا اس سے حضور ﷺ کا علم غیب واضح ہوا یا نہیں؟

علاوہ ازیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدعقیدگی رکھنے والوں کو بھی حضور ﷺ کے الفاظ............ فئتین من المسلمین .... اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل سامنے رکھتے ہوئے اپنا فکر و عمل تبدیل کر لینا چاہیے۔

حضور ﷺ کا مستقبل کے مجاہدین کو دیکھنا:

35- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم ﷺ نے اپنی رضاعی خالہ حضرت عبادہ بن صامت کی زوجہ حضرت اُمِّ حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرمایا۔ آپ ﷺ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ حضرت اُمِّ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِیْ عُرِضُوْا عَلَیَّ غُزَاۃً فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ یَرْکَبُوْنَ ثَبَجَ ھٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْکًا عَلَی الْاَسِرَّۃِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْکِ عَلَی الْاَسِرَّۃِ

''مجھ پر میری اُمت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے اس سمندر کے سینے پر اس طرح سوار ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں''

حضرت اُمّ حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمالے تو ان کے لئے رسول کریم ﷺ نے دعا کی۔ اس کے بعد پھر سو گئے اور ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت اُم حرام رضی اللہ عنہا نے وجہ پوچھی تو حضور ﷺ نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو پہلوں کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے سمندر کے سینے پر سوار ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمالے۔

قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ ''حضور ﷺ نے فرمایا تم پہلے گروہ میں شامل ہوچکی ہو''

فَرَکِبَتِ الْبَحْرَ فِیْ زَمَانِ مُعَاوِیَۃَ بْنِ اَبِیْ سُفْیَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِہَا حِیْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَھَلَکَتْ

''یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (جو اس وقت امیر شام تھے) کے عہد میں جہاز پر سوار ہوئیں اور سمندر سے نکلنے کے بعد اپنی سواری کے جانور سے گر کر جاں بحق ہوگئیں''

﴿بخاری کتاب الجہاد و السیر باب الدعا بالجہاد والشہادۃ 01/391، کتاب التعبیر باب الرّؤیا بالنّہار 02/1036۔ مسلم کتاب الامارۃ باب فضل الغزو فی البحر 02/141﴾

انصار کی حق تلفی ہوگی:

36- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے انصار کو بلایا اور ان کو بحرین کا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ملک بطور جاگیر دینا چاہا۔ انہوں نے کہا: ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسا ہی ملک عطا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا: دیکھو اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر مجھ سے ملنے تک صبر کئے رہنا۔ میرے بعد تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی دوسری حدیث پاک میں (جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا حدیث پاک سے پہلے نقل کیا ہے) یہ الفاظ بھی ہیں۔

فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ

"تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا"

﴿بخاری کتاب المناقب باب قول النبی ﷺ للانصار اصبرو 01/ 535، کتاب التوحید باب قول اللّٰہ وجوہ یومئذ ناضرۃ (1108/02)﴾

http://t.me/Tehqiqat

وحید الزماں صاحب کا تبصرہ:

"یعنی دوسرے غیر مستحق لوگ عہدوں اور خدمتوں پر مقرر ہوں گے، تم محروم رہو گے۔ ایسا ہی ہوا، ظالم بنو امیہ نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو تمام حکومت پر مامور کیا۔ انصار بیچارے جن کی مدد سے اسلام کو ترقی ہوئی تھی اور بنو امیہ کو سلطنت پہنچی تھی، محروم رہے"

﴿تیسیر الباری ج05 ص109 مطبوعہ تاج کمپنی لمٹیڈ﴾

یعنی حضور ﷺ نے برسوں پہلے آنے والے کل کے بارے میں جو غیبی خبر دی تھی، وہ سچ ثابت ہوئی۔

"اے جابر (رضی اللہ عنہ)! عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں گے"

38- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہارے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پاس قالین ہیں؟ میں عرض گزار ہوا کہ ہمارے پاس قالین کہاں سے آئے۔ ارشاد فرمایا...... یادر کھو عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں گے...... پس آج میں اپنی بیوی سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا قالین مجھ سے ذرا پرے ہٹالو تو وہ جواب دیتی ہے، کیا رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس قالین ہوں گے؟ پس میں خاموش ہو جاتا ہوں۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 512/01﴾

یہ اُمّت قریشی لڑکوں کے ہاتھوں برباد ہوگی:

39- حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ هَلْكَةُ اُمَّتِيْ عَلٰى اَيْدِيْ غِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةٍ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ لَوْشِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ بَنِيْ فُلَانٍ وَّبَنِيْ فُلَانٍ لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ اَخْرُجُ مَعَ جَدِّيْ اِلٰى بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ مَلَكُوْا بِالشَّامِ فَاِذَارَاٰهُمْ غِلْمَانًا اَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسٰى هٰٓؤُلَآءِ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنْهُمْ قُلْنَا اَنْتَ اَعْلَمُ

﴿بخاری کتاب المناقب (509/01)، کتاب الفتن باب هلاك امتی علی ایدی اغیلمه سفهاء 1046/02﴾

"میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور مروان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں نے صادق ومصدوق ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت کی ہلاکت و بربادی قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے کہا کہ ایسے لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

میں یہ بتانا چاہوں کہ وہ فلاں کا لڑکا اور فلاں کا لڑکا ہے، تو ایسا کر سکتا ہوں۔ پس میں (عمرو بن یحییٰ) اپنے دادا جان کے ہمراہ بنی مروان کی طرف گیا جب وہ شام پر حکومت کرتے تھے۔ جب نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو آپ نے (ہمارے دادا جان حضرت سعید نے) ہم سے فرمایا: شاید یہ ان لڑکوں میں سے ہوں۔ ہم نے عرض کیا: آپ کو زیادہ معلوم ہے"

کچھ اس حدیث پاک کے حوالے سے:

اس حدیث پاک میں اُمت کے نقصان اور ہلاکت و بربادی کا سبب بننے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ:

(1) ان کا تعلق قریش سے ہوگا۔

(2) بربادی کا سبب بننے والے نوعمر، نوجوان ہوں گے۔

(3) حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے نام و نسب کا یقینی علم تھا۔

(4) اس حدیث کے راوی مُحدِث حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ شام پر حکومت کرنے والے نوعمر لڑکے، حضور ﷺ کی غیبی خبر کا مصداق ہیں۔

مطالعۂ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ حدیث پاک دَورِ یزید کی نشاندہی کرتی ہے اس لیے کہ اس بدنصیب شخص کے دور میں جور و جفا کی ایسی داستانیں رقم کی گئیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے سیاہ دور میں حضور ﷺ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ خاندانِ رسالت کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ علاوہ ازیں عالم اسلام کی عقیدتوں کے مراکز مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا گیا۔

یزید کے مظالم کا اندازہ کرنے کیلئے مشہور اہل حدیث عالم مولوی وحید الزمان صاحب کا بیان ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں کہ:

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

"مدینہ والوں نے یزید کے بُرے حالات دیکھ کر اس کی بیعت توڑ ڈالی اور عبداللہ بن حَنْظَلَہ کو اپنے اوپر حاکم بنایا۔ انکے والد حنظلہ وہی تھے جن کو غَسِیْلُ الملائکہ کہتے ہیں۔ یزید نے یہ حال سن کر مدینہ والوں کا قتل عام کیا، شہر لوٹ لیا، سات سو تو صرف عالموں کو شہید کیا جن میں تین سو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے جو روضہ شریف کی طرف لید پیشاب کرتے تھے (معاذ اللہ) کوئی وقیقہ پیغمبر صاحب کی بے حرمتی کا نہ چھوڑا۔ اوپر سے طرّہ سُنیئے جب یہ مسلم بن عقبہ مرنے لگا تو مرتے وقت یوں دعا کی: "یا اللہ! میں نے (توحید و رسالت کی) شہادت کے بعد کوئی نیکی اس سے بڑھ کر نہیں کی کہ مدینہ والوں کو قتل کیا۔ یہی نیکی ایسی ہے جس کے ثواب کی مجھ کو امید ہے۔ اے خبیث! بندگان خدا پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے پھر ثواب کی امید رکھتا ہے"

﴿تیسیر الباری شرح بخاری ج 05 ص 393 مطبوعہ تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور﴾

چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کے غیبی بیان کی سچائی کا پُورا پُورا یقین تھا اس لئے آپ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرماتے تھے کہ:

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ رَّاسِ السِّتِّیْنَ وَاَمَارَةِ الصِّبْیَانِ

"اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں سن ساٹھ کی ابتداء اور بچوں کی حکمرانی سے"

﴿آپ کی یہ دعا مجمع الزوائد۔ لسان المیزان۔ تاریخ الخلفاء۔ صواعق محرقہ، ابن ابی شیبہ۔ البدایہ 8/167 وفیات 59ھ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ میں منقول ہے﴾

حافظ ابنِ حجر رحمہ اللہ مکی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ان کی وفات 59ھ میں ہوئی جبکہ یزید 60ھ میں تخت نشین ہوا۔

علاوہ ازیں فتح مکہ کے موقع پر حضور ﷺ نے کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو عطا کی اور ارشاد فرمایا: تو یہ چابی سنبھالو ہمیشہ کے لیے سوائے ظالم کے تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا۔

﴿طبقات ابن سعد﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قاضی سلمان منصور پوری کی وضاحت:

مؤرخین کا بیان ہے کہ یزید پلید نے اُن سے یہ کلید چھین لی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ 1323ء سال کا زمانہ شاہد صدق ہے کہ کسی اور شخص نے اللہ کے رسول کی زبان سے ظالم کہلانے کی جرأت نہیں کی ﴿رحمۃ للعالمین ج03 ص215 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور﴾

مافی غد کا تفصیلی علم:

40- عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِیَ اَرْضٌ يُّسَمّٰى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَاَحْسِنُوْا اِلٰى اَهْلِهَا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا اَوْقَالَ ذِمَّةً وَّصِهْرًا فَاِذَارَاَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيْهَا فِیْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَاَيْتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ شَرَحْبِيْلِ بْنِ حَسَنَةَ وَاَخَاهُ رَبِيْعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِیْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا

﴿مسلم کتاب فضائل صحابہ باب وصیّت النبی ﷺ باھل مصر 311/02﴾

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم عنقریب مصر کو فتح کرو گے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں قیراط بولا جاتا ہے۔ جب تم اس سرزمین کو فتح کرلو تو وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا حق اور رشتہ ہے یا فرمایا: ان کا حق اور سسرالی رشتہ ہے اور جب تم وہاں پر دو آدمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پر لڑتے دیکھو تو تم وہاں سے نکل آنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر میں نے عبدالرحمن بن شرحبیل بن حسنہ اور ان کے بھائی ربیعہ کو ایک اینٹ کی جگہ کے متعلق لڑتے دیکھا تو میں وہاں سے نکل آیا۔

قاضی سلمان منصور پوری کا تبصرہ: ابوذر رضی اللہ عنہ نے فتح مصر کو بھی دیکھا اور وہاں پر

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بُود و باش بھی اختیار کی اور یہ بھی دیکھا کہ ربیعہ اور عبدالرحمٰن بن شُرحبیل اینٹ برابر زمین کے لئے جھگڑ رہے ہیں، تب یہ وہاں سے چلے بھی آئے۔

﴿رحمۃ للعالمین ج 03 ص 209 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور﴾

مستقبل کی سیاست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے:

41- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُّمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ

"عراق نے اپنے درہم وقفیز، شام نے اپنے مُد اور دینار اور مصر نے اپنے اردب اور دینار روک لئے اور (اے اہلِ حجاز) تم وہاں لوٹ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے" (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر ابوہریرہ کا گوشت اور خون گواہ ہے)۔

﴿مسلم کتاب الفتن، 02/391﴾

http://t.me/Tehqiqat

قاضی سلمان منصور پوری کا تبصرہ:

یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے حالانکہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے اس لئے کہ حکمِ الٰہی میں ایسا مقدر ہو چکا تھا (گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا حکمِ الٰہی ملاحظہ فرمالیا تھا۔ راقم رضا) اس حدیث میں اس زمانہ کے متعلق پیش گوئی ہے جب مدینہ منورہ میں خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہوگیا اور دمشق میں سلطنت اُمویہ کا قیام ہوگیا تھا کہ پھر حجاز میں ان ممالک سے مالیہ نہ بہ شکل سکہ اور نہ بہ شکل جنس، کبھی حجاز کو حاصل ہوا۔ یہ پیش گوئی اب تک صدیوں سے اسی طرح پر چلی آتی ہے۔ ﴿رحمۃ للعالمین ص 03/210 مکتبہ اسلامیہ لاہور﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مسلمان کہاں کہاں لڑیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟

42- حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار باتیں یاد ہیں جن کو میں نے انگلیوں پر شمار کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جزیرۂ عرب میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم فارس میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم روم میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ نافع نے کہا: اے جابر! ہم شام کی فتح سے پہلے دجال کو نہیں دیکھیں گے۔ ﴿مسلم کتاب الفتن واشراط الساعۃ 393/02﴾

سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مستقبل کے جہادوں کی خبر دی بلکہ اس کے نتائج سے بھی آگاہ فرما دیا۔

https://t.me/Tehqiqat

مستقبل میں ایسا بھی ہوگا:

43- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَغْزُوْ جَيْشٌ نِ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ

"ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا اور وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا"

﴿بخاری المناسک باب ھدم الکعبہ 217/01﴾

اور ایسا بھی ہوگا:

44- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَاَنِّيْ بِهٖ اَسْوَدَ اَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا

"میں اس سیاہ آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ پھینکے گا"

﴿بخاری کتاب المناسک باب ھدم الکعبہ 217/01﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ادھر فتنہ ہے:

45- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ خطبہ دے رہے تھے تو آپ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ (مشرق) کی جانب اشارہ کرکے فرمایا:

هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلٰثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

''اِدھر فتنہ ہے۔ تین مرتبہ یہ بات دُہرائی۔ اِدھر سے شیطان کا سینگ نکلے گا''

﴿بخاری کتاب الجهاد والسّير باب ماجاء في بيوت ازواج النبي ﷺ 438/01۔ مسلم کتاب الفتن واشراط السّاعة 394/02﴾

شقاوت اور سنگ دلی مشرق میں ہے:

46- حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا:

غِلَظُ الْقُلُوْبِ وَالْجَفَآءِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْاِيْمَانُ فِيْ اَهْلِ الْحِجَازِ

﴿مسلم کتاب الایمان باب تفاضل اهل الایمان فيه 53/01﴾

''شقاوت اور سنگ دلی (مدینہ کے) مشرق میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے''

کفر کا گڑھ مشرق میں ہے:

47- حضور ﷺ نے فرمایا: رَاْسُ الْكُفْرِ نَحْوَالْمَشْرِقِ ''کفر کا گڑھ مشرق میں ہے''

﴿مسلم کتاب الایمان باب تفاضل اهل الایمان فيه 53/01۔ بخاری کتاب بدء الخلق 466/01﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مشرق سے شیطان کا سینگ نکلے گا:

48- حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے:

اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ وَھُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ ھَا اِنَّ الْفِتْنَۃَ ھٰھُنَا ھَا اِنَّ الْفِتْنَۃَ ھٰھُنَا ھَا اِنَّ الْفِتْنَۃَ ھٰھُنَا مِنْ حَیْثُ یَطْلُعُ قَرْنُ الشَّیْطَانِ

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب صفۃ ابلیس و جنودہ 463/01، کتاب الفتن باب الفتنۃ من قبل المشرق ج 02 ص 1050۔ مسلم کتاب الفتن 394/02﴾

"رسول اللہ ﷺ نے مشرق کی طرف منہ کر کے فرمایا: بے شک فتنہ یہاں ہے۔ بے شک فتنہ یہاں ہے۔ بے شک فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا"

مشرق سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے:

49- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے نمودار ہوگا۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا:

مِنْ حَیْثُ یَطْلُعُ قَرْنَا الشَّیْطَانِ وَاَنْتُمْ یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

﴿مسلم کتاب الفتن 02/394﴾

"جہاں سے شیطان کے دو سینگ طلوع ہوں گے اور تمہارے بعض لوگ بعضوں کی گردنیں ماریں گے"

نجد کا علاقہ فتنوں کی سرزمین ہے:

50- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ہمیں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

......قَالُوْا وَفِیْ نَجْدِنَا......لوگ عرض گزار ہوئے کہ ہمارے نجد میں بھی......آپ ﷺ نے دعا کی، اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ! ہمیں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارے نجد میں بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ فرمایا:

هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

﴿بخاری ابواب الاستسقاء 141/01، کتاب الفتن باب الفتنة من قبل المشرق 1050/02﴾

"وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا"

حضور ﷺ کی دعائے برکت سے محروم رہنے والا یہ علاقہ کہاں ہے؟

نجد کی توضیح و تعیین کے سلسلے میں مولوی وحید الزماں صاحب نے تیسیر الباری شرح بخاری میں اس سے عراق کا ملک مراد لیا ہے حالانکہ احادیث مبارکہ میں مذکور شام اور یمن سے شام اور یمن کے معلوم و مقرر ممالک ہی مراد لئے جاتے ہیں اس لیے جب عراق کی سمت میں نجد نام کا علاقہ موجود ہے اور دلائل و قرائن اسی علاقے کا تعین کرتے ہیں تو پھر اس سمت کا کوئی اور ملک مراد لینے کو بے جا تکلف ہی کہا جائے گا جسے عقیدت مند افراد تو شاید ہضم کر لیں مگر حقیقت پسند حلقے تو بہر حال دلائل اور حقائق کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔

مزید اطمینان کے لئے بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ملاحظہ ہو:

51- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں شہر (بصرہ اور کوفہ) فتح ہو گئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے:

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَّهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيْقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

''اے امیرالمومنین! رسول اللہ ﷺ نے اہل نجد کے لئے قرن کو میقات بنایا ہے اور وہ ہماری گزرگاہ نہیں۔ اگر ہم قرن کا ارادہ کریں تو ہمارے لئے تکلیف دہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اپنے راستے میں اس کے سامنے کوئی جگہ دیکھو اور آپ نے ان کے لئے ذاتِ عراق کو احرام باندھنے کی جگہ مقرر کر دیا''

﴿بخاری کتاب المناسك باب ذات عرق لاهل العراق 107/01﴾

اس روایت سے ہمارا مدعا واضح ہوا کہ نجد اور عراق دو مختلف علاقے ہیں ورنہ نجد اور عراق کے لئے دو مختلف میقات مقرر نہ کئے جاتے۔

مزید تحقیق و تفصیل کے طلب گار حضرت علامہ مفتی ظہور احمد جلالی کی کتاب ''شرح حدیثِ نجد'' کا مطالعہ فرمائیں۔ البتہ وضاحت کیلئے یہ حدیث پاک پیش خدمت ہے:

حضور ﷺ نے قبیلوں کے نام بھی بتا دیے:

52- حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

اَشَارَ النَّبِیُّ ﷺ بِیَدِهٖ نَحْوَالْیَمَنِ فَقَالَ اَلَااِنَّ الْاِیْمَانَ هٰهُنَا وَاِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوْبِ فِی الْفَدَّادِیْنِ عِنْدَاُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَیْثُ یَطْلُعُ قَرْنُ الشَّیْطَانِ فِیْ رَبِیْعَةَ وَمُضَرَ

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم غنمٌ 466/01۔ مسلم کتاب الایمان باب تفاضل اهل ایمان 52/01﴾

''رسول کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: سنو ایمان اس طرف ہے اور شقاوت اور سنگ دلی ان لوگوں میں جو بکثرت اونٹ پالتے ہیں اور اُونٹوں کی دُموں کے پیچھے ہانکتے ہوئے جاتے ہیں (جہاں سے) شیطان کے دو سینگ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر سے نکلیں گے''

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

53- ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اے اللہ! مُضر کو سختی سے کچل دے۔

﴿اکمال اکمال المعلم ج 01 ص 159 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت﴾

معلوم ہونا چاہیئے کہ مُضر نجد کا ایک سنگ دل قبیلہ ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذّاب بھی اس نجد کی ایک وادی یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس لیے علماء نے اس نجد کو فتنوں کی سرزمین قرار دیا ہے۔ جغرافیہ دانوں کو تو پہلے ہی معلوم ہے کہ نجد اور عراق دو مختلف علاقے ہیں البتہ اس تفصیل سے دیگر قارئین پر بھی واضح ہو گیا کہ نجد اور عراق واقع تو ایک ہی سمت میں ہیں مگر ان احادیث مبارکہ میں مذکور نجد سے عراق کا ملک مراد لینا درست نہیں۔

آخر میں ایک اہل حدیث عالم کی وضاحتی عبارت بھی ملاحظہ فرمایئے:

''اہلِ حدیث'' عالم مسعود عالم ندوی کا بیان:

نجد کا جنوبی حصہ جو العارض کہلاتا ہے، اس کا مشہور شہر ریاض ہے جو آج سعودی حکومت کا پایہ تخت ہے۔ ﴿حاشیہ کتاب محمد بن عبدالوہاب ص 16 ز مسعود عالم ندوی﴾

لکھتے ہیں...... عارض کو جبلِ یمامہ بھی کہتے ہیں اس کے گردونواح کی زمین وادی حنیفہ اور یمامہ کہلاتی ہے شیخ الاسلام (محمد بن عبدالوہاب تمیمی نجدی) کی جائے پیدائش ''عیینہ'' اور مرکزِ دعوت ''درعیہ'' اسی وادی میں واقع ہیں۔ ﴿حوالہ بالا﴾

مشرق کے ان لوگوں کی خاص نشانی کیا ہے؟

54- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے کہ وہ قرآن مجید پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں (گلوں) سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے اور پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر اپنی جگہ پر واپس نہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

لوٹ آئے۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا:

سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ اَوْقَالَ التَّسْبِيْدُ

''ان کی نشانی سر منڈانا ہے یا فرمایا کہ سر منڈائے رکھنا''

﴿بخاری کتاب التوحید باب قرأة الفاجر و المنافق 1128/02﴾

گستاخانِ رسول کے خارجی گروہ کی نشان دہی:

55- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا۔ آپ ﷺ نے وہ چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات قریش وانصار پر گراں گزری کہ نجد کے سرداروں کو مال دیا گیا اور ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں انہیں تالیفِ قلوب کے لئے دیتا ہوں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا۔

﴿بخاری کتاب المناقب 509/01 اور کتاب استتابۃ المرتدین 1034/02
کی روایتوں میں اس کا نام ذوالخویصرہ تمیمی ؔ بیان کیا گیا ہے﴾

اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ رخسار لٹکے ہوئے تھے۔ پیشانی آگے نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر مُنڈا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا: اے محمد ﷺ! اللہ سے ڈر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں تو اللہ کی اطاعت کون کر رہا ہے؟

56- دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا: یا رسول اللہ! انصاف سے کام لو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تیری خرابی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟

﴿بخاری کتاب الادب باب ماجاء فی قول الرّجل و یلك 910/02﴾

حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تو اہلِ زمین کی امانت میرے سپرد فرمائی ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ ایک شخص نے قتل کر دینے کی اجازت چاہی لیکن آپ ﷺ نے منع فرما دیا۔ راوی کے مطابق اجازت چاہنے والے شاید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جب وہ شخص چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی نسل میں سے یا اس کے پیچھے ایسی جماعت ہے جو قرآن پاک خوب پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا، وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کیا کریں گے اور بت پرستوں سے صلح رکھیں گے۔ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قومِ عاد کی طرح قتل کردوں۔

﴿بخاری کتاب الانبیاء باب قول اللّٰہ والیٰ عادٍ اخاھم ھوداً 471/1، کتاب التوحید باب قرأۃ الفاجر والمنافق 02 / 1105۔ مسلم کتاب الزکاۃ باب اعطاء المؤلّفۃ 341/01﴾

خارجیوں کی ایک نشانی:

57- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جانے دو کیونکہ اس کے اور بھی ساتھی ہیں۔ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو اُن کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 509/01، کتاب استتابتہ المرتدین باب من ترك قتال الخوارج 02/1024﴾

خارجیوں کی ایک اور نشانی:

حدیثِ بالا میں یہ بھی ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان جیسا یا گوشت کا لوتھڑا ہوگا۔ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے تو ان کا خروج ہوگا3۔

گستاخ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حدیث نبی کریم ﷺ سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابوطالب نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے اور میں بھی لشکرِ اسلام کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے لایا گیا تو اس کے اندر وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی تھیں۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 509/01، کتاب استتابته المرتدین باب من ترك قتال الخوارج 02/1024﴾

خارجیوں کی خاص عادت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ مسلمانوں پر چسپاں (لاگو) کردیں“

﴿بخاری کتاب استتابة المرتدین باب قتل الخوارج والملحدین 02/1046﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟

58- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان جنگ نہ ہو جائے اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان عظیم جنگ ہوگی اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔

﴿مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ 02/390﴾

اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تصنیف مراۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں سے مراد حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر ہیں جن کے درمیان 37ھ میں صفین میں بہت سخت جنگ ہوئی۔ یہ دونوں جماعتیں مدعی اسلام تھیں۔ دونوں مسلمان تھیں اور حق کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا "یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر بغاوت کر دی"

سرزمینِ حجاز سے آگ ظاہر ہوگی:

59- رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى

﴿بخاری کتاب الفتن باب خروج النار 02/1054۔ مسلم کتاب الفتن واشراط الساعۃ 02/393﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

''اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے اُونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگیں گی''

اس آگ کا ظہور یکم جمادی الثانی 654ھ کو ہوا۔ سرزمین حجاز میں اس آگ کے ظہور سے پہلے پے در پے زلزلے آئے جن کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ لوگ ہیبت زدہ ہو گئے۔ 05 جمادی الثانی کو دھوئیں نے زمین و آسمان اور اُفق کو چھپا لیا۔ جب تاریکی چھا گئی تو دوپہر کو مدینے کے مشرق کی جانب ایسی آگ بلند ہوئی کہ پتھر بھی پگھلنے لگے۔ روز بروز آگ کا رُخ مدینہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ اہلِ مدینہ نے شب جمعہ مسجد نبوی ﷺ میں بسر کی۔ بالآخر آگ نے اپنا رخ جانب شمال تبدیل کر لیا۔ یہ آگ 52 روز تک روشن رہی۔

شام کے شہر بُصریٰ میں مدرسہ بُصریٰ کے مدرس شیخ صفی الدین کی شہادت موجود ہے کہ جس روز آگ کا ظہور حجاز میں ہوا، اسی شب بصریٰ کے بدوؤں نے آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیں۔

مدینہ منورہ میں اس آگ کا ظہور ایسا مشہور ہے کہ مؤرخین کے نزدیک تواتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ جیسا کہ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفاء الوفاء میں بھی مذکور ہے۔ اس آگ کا تذکرہ امام نووی نے اپنی شرح مسلم 02/393 میں اور علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں بھی کیا ہے۔

قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمۃ للعالمین (03/213 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور) میں لکھا ہے کہ تعجب خیز امر یہ تھا کہ اس شدتِ نار کے وقت بھی مدینہ میں جو ہوا آتی تھی، وہ ٹھنڈی نسیم ہوتی تھی۔

قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا:

60- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نہ نکل آئے۔ جس پر لوگوں کا قتال ہوگا اور ہر سو آدمیوں میں سے ننانوے آدمی مارے جائیں گے اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے نجات مل جائے۔

﴿بخاری کتاب الفتن باب تغییر الزّمان۔ مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ 02/391﴾

قحطان کا ایک شخص لوگوں کو لاٹھی سے ہنکائے گا:

61- قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قحطان کا ایک شخص لوگوں کو اپنی لاٹھی سے نہ ہنکائے۔

﴿بخاری حوالہ بالا۔مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ 395/02﴾

https://t.me/Tehqiqat

سرخ چہرے، چپٹی ناک اور چھوٹی آنکھوں والوں سے قتال ہوگا:

62- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم سے قتال نہ کرلو جو بالوں والی جوتیاں پہنے گی اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ مزید فرمایا: ان کے چہرے سرخ، ناک چپٹی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔

﴿مسلم کتاب اشراط الساعۃ 02/395، بخاری کتاب المناقب 01/507﴾

یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے:

63- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کردیں حتی کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر اور درخت یہ کہے گا، اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے پیچھے ہے۔ آ اس کو قتل کردے۔ ہاں درخت غرقد نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 01/507۔ مسلم کتاب الفتن واشراط الساعۃ 02/391﴾

قیامت سے پہلے جہجاہ نام کا بادشاہ ہوگا:

64- حضور ﷺ نے فرمایا: دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک نہ ٹوٹے گا جب تک جہجاہ نام کا ایک بادشاہ نہ ہو جائے۔

﴿مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ 02/395﴾

قیامت سے پہلے تیس دجّال اور کذاب آئیں گے:

65- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دجّالوں اور کذابوں کو نہ بھیج دیا جائے جو تیس کے قریب ہوں گے۔

﴿بخاری کتاب الفتن 02/1054، بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوۃ 01/509۔ مسلم کتاب اشراط الساعۃ 02/397﴾

ستر ہزار یہودی دجّال کی پیروی کریں گے:

66- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اصفہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی سبز چادریں اوڑھے ہوئے دجّال کی پیروی کریں گے۔ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا: کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ اس نے اپنی اُمت کو کانے کذاب سے ڈرایا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہے۔

﴿بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدّجال 02/1055۔ مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ باب ذکر الدّجّال 02/400 (مسلم میں ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی۔ باب ذکر الدّجّال 02/399)﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے اور دجّال کو بھی:

67- حضور ﷺ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ چنانچہ گندمی رنگ اور سیدھے بالوں والے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: حضرت ابن مریم علیہا السلام۔ پھر جاتے ہوئے میں نے ادھر توجہ کی تو ایک موٹے تازے آدمی کو دیکھا جس کا رنگ سرخ، بال گھنگھریلے اور آنکھ سے کانا تھا گویا اس کی آنکھ پکے ہوئے انگور کی طرح تھی۔ لوگوں نے کہا: یہ دجّال ہے۔

﴿بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدّجّال 1055/02، کتاب الانبیاء باب واذکر فی الکتاب مریم 489/01﴾

دجّال مدینہ میں داخل نہیں ہوسکتا:

68- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مدینہ منورہ کے اندر دجّال کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دنوں اس کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے۔

﴿بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدّجّال 1055/02﴾

69- مسلم میں ہے کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا۔

﴿بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدّجّال 402/02﴾

قیامت کی خاص نشانیاں:

70- حضور ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔ دھواں، دجّال، دآبتہ الارض (زمین کا زلزلہ)، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج وماجوج اور تین جگہ زمین دھنسنے کا ذکر

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کیا اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر محشر کی طرف لے جائے گی۔

﴿مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ 02/393﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شان سے آئیں گے اور دجّال کو قتل کریں گے:

71- حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دو زرد رنگ کے حُلّے پہنے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی، اس کا زندہ رہنا ناممکن ہوگا اور ان کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ وہ دجّال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ بابِ لُد پر اس کو موجود پا کر اسے قتل کر دیں گے۔

﴿مسلم کتاب الفتن و اشراط السّاعۃ باب ذکر الدجال 02/401﴾

نوٹ: حدیث پاک میں دجّال کی کارگزاریوں کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

کتنا تفصیل سے بتایا میرے حضور ﷺ نے:

72- حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور ایک جانب سمندر میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک اس میں ستر ہزار بنو اسحٰق (عرب) جہاد نہ کریں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو نہ وہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے نہ تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے۔ "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ" تو شہر کی ایک جانب گر جائے گی۔ پھر دوسری بار کہیں گے "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ" تو اس کی دوسری جانب گر جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو ان کے لئے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مالِ غنیمت حاصل کریں گے۔ جس وقت وہ مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

گے تو ایک چیخ سنائی دے گی کہ دجّال نکل آیا ہے تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر لوٹ آئیں گے۔

﴿مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة 02/396﴾

73- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (قربِ قیامت میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی جانے والی ایک شدید جنگ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد) فرمایا: اللہ تعالیٰ کافروں پر شکست مسلّط کر دے گا۔ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ کی مثال دیکھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ پرندے بھی ان کے پہلوؤں سے گزریں گے تو وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور مُردہ ہو کر گر پڑیں گے۔ ایک باپ کی اولاد سو تک ہوگی، ان میں سے ایک کے سوا اور کوئی نہیں بچے گا۔ اس صورت میں مالِ غنیمت سے کیا خوشی ہوگی اور کیسے وراثت تقسیم ہوگی۔ مسلمان اسی حالت سے دوچار ہوں گے کہ اس سے بڑی افتاد آ پڑے گی۔ ایک چیخ سنائی دے گی کہ مسلمانوں کی اولاد میں دجّال آ چکا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا، اسے چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔

فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً ...... تو دس گھوڑ سواروں کا ہراول دستہ بھیجیں گے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّیْ لَاَعْرِفُ اَسْمَآءَهُمْ وَاَسْمَآءَ اٰبَآئِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ان سواروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ خوب جانتا ہوں۔ وہ اس دن روئے زمین کے بہترین گھڑ سواروں میں سے ہوں گے"

﴿مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة 02/392﴾

74- احادیثِ مبارکہ میں ہے کہ حضور ﷺ نے انتہائی قربِ قیامت کی نشانیوں کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ قیامت جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی۔

﴿مشکوٰۃ باب الجمعه فصل اوّل ص119 بروایت مسلم کتاب الجمعه 01/282﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

75- اور عصر کے بعد کا وقت ہوگا۔ ﴿مشکوٰۃ ص 120 بروایت ترمذی﴾

76- اور یہ بھی بتا دیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ ﴿ابن ماجہ۔ مسند احمد﴾

تاہم آپ ﷺ نے قیامت کا سال مخفی رکھا اس لئے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور امتحان کا تقاضا یہی ہے کہ عین وقت قیامت لوگوں سے مخفی رکھا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا:

فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا ○ ﴿سورۃ النازعات: 43﴾

"تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق" 4

حواشی

1 حضور ﷺ تو انصار کو حوض کوثر پر ملاقات کی خبر دیں اور کچھ لوگ قرآن فہمی کے زعم میں خود حضور ﷺ کو اپنے ہی انجام و مقام سے بے خبر بتائیں (فیا للعجب)۔ آئندہ صفحات میں اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

2 اس گستاخ رسول کا نام حرقوص بن زہیر تھا اور یہ فتنوں کی سرزمین نجد کا رہنے والا تھا۔ بخاری کتاب استتابۃ المرتدین باب من ترک قتال الخوارج 02/1024 میں حدیث پاک ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی:

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ○ ﴿سورۃ توبہ: 58﴾

"اور ان میں کوئی وہ ہے جو صدقے تقسیم کرنے میں تم پر طعن کرتا ہے"

3 جب رائے اور نقطہ نظر کے اختلاف کے سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر آمنے سامنے آ گئے تو افتراق اور خون ریزی کا راستہ روکنے کے لئے پھر کوشش کی گئی اور دونوں طرف سے چند افراد کو تصفیہ کے لئے حکم (ثالث) مقرر کیا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعوان وانصار میں سے ایک جماعت نے صلح کے لئے حکم مقرر کرنے کو ناپسند کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے:

لَا حُکْمَ اِلَّا لِلّٰهِ: ''اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں''

چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے غیر اللہ کو حکم بنایا ہے، اس لئے وہ دونوں مشرک ہو گئے ہیں (معاذ اللہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے مایہ ناز عالم، حبر الامت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تا کہ وہ ظاہر بینوں کی اس جماعت کو قرآن کے منشاء ومراد سے آگاہ کر کے انہیں علیحدگی اور مخالفت سے منع کریں مگر اُن کی تمام وضاحتوں کے باوجود وہ لوگ ان دونوں حضرات کو اور مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو کافر ومشرک قرار دینے سے باز نہ آئے اور علیحدگی اور مخالفت اختیار کیے رکھی۔

بعد ازیں نہروان میں جمع ہو کر ان لوگوں نے قتل وغارت کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب اور ان کی اہلیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاصد حارث بن مرہ کو بھی نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔

ان خارجیوں کی ایسی کاروائیوں کے نتیجے میں نہروان کا معرکہ پیش آیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اصلاحِ احوال کی آخری کوششیں بھی ناکام ہو گئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان پر لشکر کشی کر کے اس فتنہ کی کمر توڑ دی۔ مگر افسوس خارجی جماعت کے افکار ونظریات کا تاریخی سفر جاری رہا۔ اللہ پاک اُمتِ مسلمہ کو ایسے گستاخانہ افکار ونظریات سے محفوظ رکھے، آمین۔

4 قیامت کے بارے میں اس قدر تفصیلی بیانات سے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جن آیات واحادیث میں قیامت کے علم کی مخلوق سے نفی کا بیان ہے وہاں اس سے یہی

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مراد ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کرام نے ان آیات واحادیث سے یہی مرادلیا ہے۔ اس بارے میں مکمل اطمینان کے لئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّة اور سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اَلْكَلِمَةُ الْعُلْيَا کا مطالعہ فرمائیں۔

5. بخاری ومسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم ﷺ کو ما فی غدٍ (کل کیا ہوگا؟)، ماذا تکسب غدًا (کوئی کل کیا کرے گا؟) اور ما فی الارحام (ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی؟) کا علم عطا فرمایا ہے۔

6. اس سے یہ سمجھنا بھی آسان ہوگیا کہ جب چھوٹی بچیوں نے گاتے ہوئے ما فی غد کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کی اور کہا کہ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا: یہ چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں۔ اسے دلیل بنا کر آپ ﷺ کی لاعلمی اور بے خبری کا فتویٰ جاری کرنے کی بجائے اسے آپ ﷺ کے تواضع وانکساری پر محمول کرنا چاہیے۔ وگرنہ ان تمام احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ مکمل اطمینان کے لیے ارشادالساری شرح بخاری، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح اور اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جیسی شروحات کے عالمانہ بیانات کا مطالعہ مفید رہے گا۔

نوٹ: اشرف علی تھانوی صاحب نے "جمال الاولیاء" اور "ارواح ثلاثہ" میں اور عبدالمجید خادم صاحب سوہدروی ومحمد ابراہیم میر صاحب سیالکوٹی نے "کرامات اہلحدیث" میں بھی مَافِیْ غَدٍ ...... مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ...... مَافِی الْاَرْحَامِ کے علاوہ دلوں کے حالات اور دور دراز فاصلوں کے علم پر مبنی متعدد واقعات درج کیے ہیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پانچواں باب

موت کے وقت
موت کی جگہ
موت کی کیفیت
کا علم

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کل کون کون قتل ہوگا؟

77- باب: ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُّقْتَلُ بِبَدْرٍ

﴿بخاری کتاب المغازی 02/563﴾

"آنحضرت ﷺ کا بیان کرنا کہ بدر میں فلاں فلاں لوگ مارے جائیں گے"

وحید الزماں صاحب کا تبصرہ:

اس باب میں امام مسلم نے جو روایت کی، وہ زیادہ مناسب ہے کہ......

78- آنحضرت ﷺ نے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا تھا کہ یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ ﷺ نے جو جو مقام ہر ہر کافر کے بتلائے تھے، وہ کافر وہیں گرا اور مارا گیا۔

﴿تیسیر الباری شرح بخاری ص 233/05 مطبوعہ تاج کمپنی لمیٹڈ﴾

بِاَیِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ (کون کہاں مرے گا؟) کا علم:

79- حضور ﷺ نے نام لے لے کر کافروں کے مرنے کی جگہ بتائی:

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَّيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ هٰهُنَا وَ هٰهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَّوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

﴿مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر 02/102﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

(حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے) پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ ﷺ زمین پر اِس جگہ اور اُس جگہ ہاتھ رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی اِدھر اُدھر نہیں ہوا۔

80- مسلم شریف میں کتاب الجنۃ میں یہ حدیث لفظ غـدًا کے ساتھ مذکور ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم، جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، رسول کریم ﷺ نے جو جگہ ان کے گرنے کی بتائی تھی، وہ اس حد سے بالکل متجاوز نہیں ہوئے۔

سبحان اللہ! اس حدیث پاک نے مکمل صراحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ ہمارے حضور ﷺ کو وضاحت اور تعین کے ساتھ معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ اسی کو بِاَیِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ کا علم کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جہاں اس علم کی نفی بیان کی گئی ہے ﴿سورۃ لقمان: 34﴾ وہاں اُس سے مراد یہ ہے کہ علومِ غیبیہ کی حقیقی مرکزیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بتائے بغیر کوئی یہ علوم از خود نہیں جان سکتا۔ ہاں وہ جس کو چاہے، عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم کے ایسے واضح بیان کے باوجود اسے شرک قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

بیٹی! سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا:

81- عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ دَعَا النَّبِیُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهٗ فِیْ شَكْوَاهُ الَّذِیْ قُبِضَ فِیْهِ فَسَارَّهَا بِشَیْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِی النَّبِیُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِیْ اَنَّهٗ يُقْبَضُ فِیْ وَجَعِهِ الَّذِیْ تُوُفِّیَ فِیْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

سَارَّنِی النَّبِیُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِیْ اَنَّهٗ یُقْبَضُ فِیْ وَجَعِهِ الَّذِیْ تُوُفِّیَ فِیْهِ فَبَکَیْتُ ثُمَّ سَارَّنِیْ فَاَخْبَرَنِیْ اَنِّیْ اَوَّلُ بَیْتِهٖ اَتَّبِعُهٗ فَضَحِکْتُ

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت ص 512/01، باب منقبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾

"حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اس مرض میں بلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ پھر ان کے ساتھ خفیہ بات کی۔ وہ رونے لگیں۔ پھر نزدیک بلا کر خفیہ کلام فرمایا۔ وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خفیہ بات کی اور بتایا کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہستہ بات کی اور مجھے بتایا کہ میں (فاطمہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آؤں گی تو میں ہنس پڑی"

ازواج میں سب سے لمبے ہاتھوں والی پہلے فوت ہوگی:

82- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِیِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِیِّ ﷺ اَیُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ یَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً یَّذْرَعُوْنَهَا فَکَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ یَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا کَانَتْ طُوْلَ یَدِهَا الصَّدَقَةَ وَکَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهٖ ﷺ وَکَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

﴿بخاری کتاب الزکوۃ باب فضل صدقہ 191/01﴾

"سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں۔ بعض ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملے گی؟ فرمایا! جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ ازواجِ مطہرات نے چھڑی ہاتھ میں لے کر ہاتھ ناپنے شروع کر دیئے تو حضرت سودہ کا ہاتھ لمبا نکلا۔ بعدازاں ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ ہے چنانچہ (سیدہ زینب) سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے ملیں اور انہیں خیرات کرنا بہت پسند تھا" (رضی اللہ عنہن)۔

83- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًا بِیْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ اَيَّتُهُنَّ اَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ اَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِاَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ

﴿مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل زینب 02/291﴾

"تم میں سے سب سے زیادہ جلد مجھ سے وہ زوجہ ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، پھر ہم سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کرتی تھیں اور صدقہ و خیرات کرتی تھیں"

ان احادیث کے مربوط مطالعہ سے درج ذیل امور سامنے آتے ہیں۔

(1) حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور ﷺ سے جلد ملاقات کی غیبی خبر سن کر ہنس پڑنا، اُن کے اس عقیدے کا عکاس ہے کہ حضور ﷺ موت کا وقت جانتے ہیں۔

(2) اسی طرح ازواجِ مطہرات کے حضور ﷺ سے سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ کے بارے میں سوال کرنے اور آپ ﷺ کی زبان سے لمبے ہاتھ والی زوجہ کی سب سے پہلے وفات پانے کی خبر سن کر اپنے ہاتھ ماپنے سے ان کا یہ پختہ عقیدہ واضح ہوتا ہے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔

کتنی ستم ظریفی ہے کہ حضور ﷺ تو غیب سے تعلق رکھنے والے سوال پر اعتراض نہ فرمائیں بلکہ موت تک کی غیبی خبریں بھی دیں مگر آج نہایت دلیری کے ساتھ حضور ﷺ کو بے خبر ثابت کرنے اور آپ ﷺ کے علم پاک کی وسعت کا اعتقاد رکھنے والوں کو مشرک قرار دینے کی مذموم کوشش عروج پر ہے۔

زبان وقلم چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک کتنے مسلمان اس کی زد میں آئیں گے (العیاذ باللہ)۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوسِ قدسیہ کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، آمین۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے آگاہ فرمادیا:

84- سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا: تم نے رسول اللہ ﷺ کو کتنے کپڑوں میں دفنایا؟ میں نے کہا: بن دھلے سفید کپڑوں میں جن میں نہ تو قمیض تھی اور نہ عمامہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: فِیْ اَیِّ یَوْمٍ تُوُفِّیَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ "رسول اللہ ﷺ نے کس دن وفات پائی تھی؟"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: یَوْمَ الْاِثْنَیْنِ ...... پیر کے روز۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آج کیا دن ہے؟ میں نے کہا: پیر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اَرْجُوْ فِیْمَا بَیْنِیْ وَبَیْنَ اللَّیْلِ ...... "مجھے توقع ہے کہ رات تک کوچ کر جاؤں گا" (حدیث پاک کے آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں) پھر اس دن وفات نہ ہوئی یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی اور صبح سے پہلے دفن کر دیے گئے۔

﴿بخاری کتاب الجنائز باب موت یوم الاثنین 01/186﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے وصال سے آگاہ فرمادیا:

85- حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (ان کے والد) حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا۔ میں آ کر آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا:

یَابُنَیَّ اِنَّهٗ لَایُقْتَلُ الْیَوْمَ اِلَّا ظَالِمٌ اَوْمَظْلُوْمٌ

"اے بیٹے! آج ظالم یا مظلوم قتل ہوگا"

وَاِنِّیْ لَا اُرَانِیْ اِلَّا سَاُقْتَلُ الْیَومَ مَظْلُوْماً

"اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میں مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں گا"

﴿بخاری کتاب الجهاد والسیر باب برکت الغازی فی ماله 01/441﴾

آپ کو عمرو بن جرموز تمیمی نے جمل کے دن نماز کی حالت میں یا مشہور روایت کے مطابق قیلولہ کے دوران سوتے میں شہید کر دیا۔

http://t.me/Tehqiqat

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے آگاہ فرمادیا:

86- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدٌ دَعَانِیْ اَبِیْ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ مَا اُرَانِیْ اِلَّا مَقْتُوْلًا فِیْ اَوَّلِ مَنْ یُّقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ ﷺ وَاِنِّیْ لَا َترُكُ بَعْدِیْ اَعَزَّ عَلَیَّ مِنْكَ غَیْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاِنَّ عَلَیَّ دَیْناً فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَیْراً فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِیْلٍ ....الخ

﴿بخاری کتاب الجنائز باب هل یخرج المیت من القبر 01/180﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اُحد کا وقت قریب ہوا تو رات کو میرے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

والد (عبداللہ) نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کے شہید ہونے والے صحابہ میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والا میں ہوں اور میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز چھوڑے جارہا ہوں۔ مجھ پر قرض ہے، اسے ادا کردینا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی تھے۔

"تم مُدّتوں زندہ رہو گے":

87۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ میری بیمارپُرسی کے لئے تشریف لائے جبکہ میں حجۃ الوداع میں ایسا بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہوگیا تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ (ﷺ)! آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک میری بیماری پہنچی ہوئی ہے (آگے وصیت کے بارے میں بیان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ) میں عرض گزار ہوا، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد مکہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفْعَةً

"تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے اور تم اللہ کی رضا کے لئے جو عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہوتا جائے گا"

3۔ وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَّيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ

"اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک (مدتوں) زندہ رہو گے حتیٰ کہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچے"

(اس کے بعد حضور ﷺ نے مہاجرین کے لئے دعا فرمائی)

﴿بخاری کتاب الجنائز باب رثاء النبی ﷺ سعد بن خولہ 173/01، کتاب المناقب باب اللّٰھم امض لاصحابی ھجرتھم﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ کے علم غیب کا واضح بیان ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شدّتِ مرض کے باوجود بتادیا کہ تم اس مرض میں وفات نہیں پاؤ گے یعنی ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بیماری سے صحت یاب ہوئے اور بعدازیں چالیس سال زندہ رہے۔ اسی طرح نفع ونقصان کے بیان والی دوسری پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے عراق کا ملک فتح کیا اور مسلمانوں کو بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔ بہت سے کافروں کو آپ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور بہت سوں کو قیدی بنایا۔

بایِّ ارضٍ تموت (مقامِ انتقال) کے علم کا ایک اور واقعہ:

88- حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ جب 31ھ میں ربذہ کے ویرانے میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو میں رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا، کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ تم ایک صحرا میں سفرِ آخرت پر جارہے ہو، یہاں تم کو کفن دینے کے لئے کوئی نیا کپڑا بھی نہیں ہے۔ فرمایا: میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے چند آدمیوں کے سامنے فرمایا جن میں ایک میں بھی تھا، تم میں ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اُس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ ان آدمیوں میں سے میرے علاوہ سب لوگ آبادی میں وفات پاچکے ہیں اور اب صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں اس لئے یقیناً وہ شخص میں ہی ہوں۔ ﴿اسد الغابہ از علامہ محمد بن محمد ابن الاثیر جزری﴾

کون کیسے فوت ہوگا؟

89- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى اُحُدٍ وَّمَعَهُ اَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ وَّ صِدِّيْقٌ اَوْشَهِيْدَانِ

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر بن خطاب 01/521﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کوہ اُحد پر چڑھے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ پہاڑ کو وجد آیا تو آپ ﷺ نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا: اُحد! ٹھہر جا: تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔

چند باتیں اس حدیث پاک کے بارے میں:

(1) کوہِ اُحد مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر واقع مشہور پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ بھی حضور ﷺ کا چاہنے والا تھا اور آپ بھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں مختلف مقامات پر یہ حدیث پاک منقول ہے کہ:

90- اُحد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔

﴿بخاری کتاب المغازی باب احدٌ یحبّنا 637/02، کتاب الدّعوات باب التعوّذ من غلبة الرّجال 941/02﴾

(2) یہ پہاڑ نہ جانے کب سے حضور ﷺ اور دیگر اصحاب قدسیہ رضی اللہ عنہم کے مبارک تلووں کو چومنے کے لئے منتظر و بیتاب تھا۔ جیسے ہی حضور ﷺ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، یہ پہاڑ فرحت و سرور اور کیف و مستی میں جھومنے لگا۔

(3) حضور ﷺ کی آمد کی خوشی میں جھوم اٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ اُحد پہاڑ حضور ﷺ کو پہچانتا ہے۔ اور کیوں نہ پہچانتا؟ اس پہاڑ کو بلکہ کائنات کی ہر شے کو وجود ہی آپ ﷺ کے صدقے ملا ہے۔ آپ ﷺ اصلِ کائنات ہیں۔ آپ ﷺ جانِ کائنات ہیں۔ بھلا کوئی آپ ﷺ سے کیسے بے نیاز ہوسکتا ہے؟ کائنات کی ہر شے آپ ﷺ کے زیرِ احسان ہے۔ آپ ﷺ کی رسالتِ عامہ اور رحمتِ کاملہ کا سایہ جنوں اور انسانوں ہی پر نہیں، تمام جہانوں کے افراد و اشیاءِ کائنات پر ہے۔ اسی لئے تو قرآن نے جن اور انسان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ ﴿سورۃ الانبیآء﴾

"اور اے محبوب! ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے سراپا رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے"

(4) کوہِ اُحد حرکت کرنے لگا تو حضور ﷺ نے اپنا پائے اقدس پہاڑ پر مارا اور حکم دیا، ٹھہر جا۔ یہ حکم ملتے ہی پہاڑ نے اپنی حرکت بند کردی جیسے کوئی ذی نفس اپنا سانس روک لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضور ﷺ کو انسان تو انسان پہاڑوں پتھروں پر بھی تَصرّف وتَسلُّط اور اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کائنات کی ہر شے پر حاکم و فرماں روا بنایا ہے۔ حضور ﷺ اپنے اس تصرف وتسلط اور اختیار کو خوب جانتے ہیں اسی لئے تو آپ ﷺ نے پہاڑ کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔

91- مکہ کے پتھر اور نواحِ مکہ کے ہر درخت کا آپ ﷺ کو ("السّلام علیک یا رسول اللہ" کہہ کر) سلام کرنا

﴿مسلم باب تسلیم الحجر علیه 245/02۔ ترمذی ابواب المناقب باب ماجآء فی آیات نبوۃ ﷺ 203/02۔ مشکوہ۔ دارمی﴾

92- ایک اعرابی کی درخواست پر حضور ﷺ کے حکم پر درخت کا اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جانا

﴿مشکوہ بحوالہ دارمی۔ مسند احمد۔ تاریخ امام بخاری۔ ترمذی ابواب المناقب باب ماجآ فی آیات نبوۃ 203/02۔ مستدرک حاکم۔ طبقات ابن سعد۔ البدایہ﴾

......حضور ﷺ کے تصرّف و اختیار اور حکمرانی و فرمانروائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کاش! ہم اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان بلکہ حضور ﷺ کے اُمتی بھی آپ ﷺ کو سچے دل سے اپنا حاکم وفرماں روا مانتے ہوئے آپ ﷺ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے بن جائیں، آمین۔

https://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

(5) حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصدیق وسچائی کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے صدیق کا لقب عطا فرمایا اور حضرت عمر وعثمان رضی اللہ عنہما کو شہید فرما کر گویا ہمیں سمجھا دیا کہ یہ نفوسِ قدسیہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں قربت وقبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان حضرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہمیشہ اپنی محبت وعقیدت اور اچھے گمان کا مضبوط تعلق اُستوار کرنا چاہیے۔

(6) آپ ﷺ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے حضور ﷺ جانتے ہیں کہ کون کس حال میں دنیا سے جائے گا، اس لئے کہ شہادت کے مقامات ودرجات دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصتی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ گویا حضور ﷺ موت کی کیفیت ونوعیت سے آگاہ ہیں۔

اسی علم ومشاہدے کی بنیاد پر ہی تو حضور ﷺ نے ان دو اصحاب کے علاوہ مختلف مواقع پر دیگر کئی اصحاب کو شہادت اور جنت کی بشارت دی تھی۔

حضور ﷺ تو حضور ﷺ کے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم بھی جانتے تھے:

93- حضرت شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کس کو فتنوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا فرمان مبارک یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی کے اہل وعیال، مال، اولاد اور ہمسائے کے فتنے کا کفارہ، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے ذریعے ہو جاتا ہے۔

قَالَ لَيْسَ عَنْ هٰذَا اَسْاَلُكَ وَلٰكِنَّ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھتا بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو موج دریا کی طرح چڑھے گا"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنهَا بَاسٌ يَاأَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُّغْلَقًا

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المومنین! آپ کو اس کا کیا ڈر؟ جبکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے“

قَالَ عُمَرُ يُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟“

قَالَ بَلْ يُكْسَرُ

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: بلکہ توڑا جائے گا“

قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا وہ دروازہ پھر بھی بند کیا جا سکے گا؟“

قُلْتُ أَجَلْ

”میں نے کہا: ہاں“

”(شقیق کہتے ہیں کہ) ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو جانتے تھے؟“

قَالَ نَعَمْ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کو ایسا جانتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں کہ کل دن سے پہلے رات آئے گی“

وَذٰلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ

”اور یہ اس لئے کہ میں نے ان کو ایسی حدیث کی خبر دی ہے جو پہیلی نہیں ہے یا ایسی خبر نہیں ہے جس میں کوئی غلطی ہو“ شقیق کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنے سے ڈرے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو ہم نے مسروق سے کہا: انہوں نے پوچھا کہ دروازہ کون ہے؟“

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قَالَ عُمَرُ ''حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں''

﴿بخاری کتاب مواقیت الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ کفارۃ 75/01، کتاب الفتن باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر۔ مسلم کتاب الفتن 391/02﴾

صحیح مسلم میں زیادہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

اِنَّ ذَالِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ اَوْيَمُوْتُ

''کہ اس دروازہ سے مراد ایک شخص ہے جسے قتل کر دیا جائے گا''

﴿مسلم کتاب الایمان باب رفع الامانۃ والایمان 82/01﴾

یہ حدیث پاک اس بیان میں نہایت صریح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے قتل کے بارے میں یقین سے جانتے تھے نیز حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حضور ﷺ کے مستقبل کے حالات و واقعات کی معلومات کے خاص راز دار تھے، ان کو بھی آئندہ پیش آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قتل کے واقعہ کا پیشگی علم تھا۔

جب حضور ﷺ کے غلاموں کو ایسا علم حاصل ہے تو خود حضور ﷺ کو کیسا علم حاصل ہوگا؟

بخاری و مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب ﷺ کو موت کے وقت، مقام اور کیفیت و نوعیت کا غیبی علم عطا فرمایا ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حواشی

1۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو یہ علم کیوں عطا فرماتا۔

2 3۔ اللہ و رسول ﷺ کے کلام میں لعلّ کا لفظ تحقیق اور قطعیت کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ مجمع البحار میں اس کی صراحت ہے۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ لعلّ کا معنی ترجی ہے مگر جب یہ لفظ اللہ اس کے رسول اور اسکے اولیاء کرام کے کلام میں استعمال ہو تو اس کا معنی یقینی و قطعی ثابت ہوتا ہے۔

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

چھٹا باب

عالمِ برزخ اور مقاماتِ آخرت کا علم

https://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat
Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

عالمِ برزخ کا علم

حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا:

94- حضور ﷺ نے فرمایا: مَرَرْتُ عَلٰی مُوْسٰی لَیْلَةَ اُسْرِیَ بِیْ عِنْدَ الْکَثِیْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ یُّصَلِّیْ فِیْ قَبْرِهٖ...... جس رات مجھے معراج کروائی گئی، اس رات میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کثیبِ احمر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ﴿مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام 2/268﴾

حضور ﷺ نے قبروں میں ہونے والے عذاب دیکھ لیا:

94- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِیُّ ﷺ بِقَبْرَیْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَیُعَذَّبَانِ وَ مَا یُعَذَّبَانِ فِیْ کَبِیْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَکَانَ لَا یَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَکَانَ یَمْشِیْ بِالنَّمِیْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِیْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَیْنِ فَغَرَزَ فِیْ کُلِّ قَبْرٍ وَّاحِدَةً قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهٗ یُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ یَیْبَسَا ﴿بخاری کتاب الوضو 01/35﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں پر سے گزرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں...... فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَیْنِ یُعَذَّبَانِ فِیْ قُبُوْرِهِمَا...... تو آپ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ﷺ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ ﷺ نے ایک ہری بھری شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پر گاڑ دیئے۔ لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ (ﷺ)! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: اس لئے کہ جب تک یہ شاخ کے ٹکڑے نہیں سوکھیں گے، اُمید ہے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔

96- حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غروب آفتاب کے بعد نکلے ......فَسَمِعَ صَوْتاً فَقَالَ یَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا ......

آپ ﷺ نے ایک آواز سنی تو فرمایا: یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔

﴿بخاری کتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر 184/01۔
مسلم کتاب الجنة باب اثبات عذاب القبر 386/02﴾

http://t.me/ahlesunnat_hindipdf

میں قبروں کا عذاب سنتا ہوں:

97- حضرت ابوسعید خدری نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا......اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰی فِیْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَّا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ یُّسْمِعَكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِیْ اَسْمَعُ مِنْهُ

﴿مسلم کتاب الجنة باب اثبات عذاب القبر 386/02﴾

"ان قبروں میں اس اُمّت کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اگر مجھے یہ (خدشہ) نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مُردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ تم کو وہ عذاب سنائے جو میں سنتا ہوں"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مقاماتِ آخرت کا ایسا علم، اللہ اللہ:

98- حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (واقعہ معراج کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے) فرمایا:

فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَّ عَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىٰ قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَ هٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عِنْدَ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىٰ .... الخ

﴿مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ ﷺ الی السمٰوٰت 92/01﴾

"جب ہم آسمان دنیا کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کے دائیں بائیں بکثرت مخلوق تھی۔ وہ دائیں طرف دیکھ کر ہنستے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا: خوش آمدید اے صالح نبی اور صالح بیٹے! میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں بائیں جو ہجوم ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ دائیں جانب جنتی ہیں اور بائیں جانب جہنمی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر روتے ہیں"

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی اپنی تمام اولاد کو دیکھا ہے اور آپ علیہ السلام جانتے اور پہچانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

گا، اور کون جہنم میں ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم و مشاہدہ حاصل ہے تو حضور ﷺ کو کیسے حاصل نہیں ہوگا جبکہ آپ ﷺ تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔

آپ آگے بڑھیے اور اپنے آقا و مولا، تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے علم و مشاہدہ کا بیان پڑھیے۔

''فاطمہ (رضی اللہ عنہا)! تم جنتی عورتوں کی سردار ہو''

99- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے (ان کے ہنسنے اور رونے کا سبب) پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ﷺ نے مجھ سے سرگوشی کی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن پاک کا ایک بار دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ کیا ہے۔ پس خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو اس بات نے مجھے رُلایا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكْتُ لِذَالِكَ۔

''کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو؟ پس میں اس بات پر ہنس پڑی''

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 512/01﴾

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے:

100- عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رضی اللہ عنہ بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِّنْ قَصَبٍ لَّا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ

﴿بخاری کتاب المناقب باب تزویج النبی ﷺ خدیجہ 539/01﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی تھی؟ جواب دیا، ہاں، ایسے محل کی بشارت دی تھی جس میں نہ شوروغل ہوگا اور نہ رنج ومشقت اور وہ موتی کا محل ہوگا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخرت میں بھی حضور ﷺ کی زوجہ ہیں:

101- حضرت ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ جب (جنگ جمل سے پہلے) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تا کہ ان لوگوں کو اپنی مدد پر مائل کریں تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) دنیا اور آخرت میں رسول کریم ﷺ کی بیوی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزمایا ہے کہ ان (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی پیروی کرو گے یا ان (حضرت عائشہ) کی۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب فضل عائشہ 01/532﴾

102- ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یہ دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کی زوجہ ہیں۔ ﴿ترمذی ابواب المناقب باب من فضل عائشہ﴾

ان احادیث سے حضور ﷺ کا علم غیب تو واضح ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی، حضرت عمار اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کا حضور ﷺ کے علوم غیبیہ کے بارے میں مثبت عقیدہ بھی سامنے آتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا:

103- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو راہ خدا میں دوگنا خرچ کرے تو جنت کے ہر دروازے کا منتظم اسے جنت میں داخل ہونے کے لئے اپنے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دروازے کی طرف بلائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ (ﷺ)! پھر اس شخص کو تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔

فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ اِنِّی لَاَرْجُوْ اَنْ تَکُوْنَ مِنْھُمْ

"تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے قوی ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو"

﴿بخاری کتاب الجهاد والسیر باب فضل النفقه فی سبیل اللّٰه 398/01، بخاری کتاب المناقب 517/01﴾

حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنتی محل بھی دیکھا:

104- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

اَنَا نَائِمٌ رَاَیْتُنِیْ فِی الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّاُ اِلٰی جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَکَرْتُ غَیْرَتَهٗ، فَوَلَّیْتُ مُدْبِرًا فَبَکٰی عُمَرُ وَ قَالَ اَعَلَیْكَ اَغَارُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب ابن خطاب 520/01، کتاب التعبیر باب القصر فی المنام 1040/02، کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی صفة الجنّة 460/01﴾

"میں سویا ہوا تھا کہ خود کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک مکان کے گوشے میں ایک عورت کو وضو کرتے پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا، عمر رضی اللہ عنہ کا، پس مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی اس لئے اُلٹے پاؤں لوٹ آیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ (ﷺ)! کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟"

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

105- حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت والی حدیث پاک اس کتاب میں مافی غد کے باب میں بیان کی گئی ہے۔

﴿بخاری کتاب الادب 02/ 918، کتاب المناقب باب مناقب عمر بن خطاب 01/522﴾

یہ دس صحابہ رضی اللہ عنہم جنت میں جائیں گے:

106- حضرت سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس آدمی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زُبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبدالرحمٰن، حضرت ابوعُبَیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہم)۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید نو آدمیوں کا نام گن کر دسویں سے خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا: ابو اَعْوَر! ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ دسواں کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، ابو اَعْوَرْ جنتی ہیں یعنی میں خود دسواں آدمی ہوں، ابو اعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔

﴿ترمذی ابواب المناقب باب مناقب عبدالرّحمٰن بن عوف 02/216﴾

"ثابت رضی اللہ عنہ! تم جہنمی نہیں، جنتی ہو"

107- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ایسا ہے جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر لائے؟ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں آپ کو ان کی خبر لا کر دوں گا۔ پس وہ گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پوچھا: آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ بُرا حال ہے کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر بیٹھا تھا اس لئے میرے تمام عمل ضائع ہو گئے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ہوں گے اور جہنمیوں میں میرا شمار ہو گیا ہو گا! اس آدمی نے آ کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ وہ (یہ) کہتے ہیں۔ پس حضرت موسیٰ بن انس فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑی خوشخبری لے کر دوبارہ گیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

اِذْهَبْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنْ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 510/01، کتاب التفسیر باب لاترفعوا اصواتکم 718/02﴾

''ان کے پاس جاؤ اور کہو اے ثابت! تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو''

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام اہلِ جنت میں سے ہیں:

108- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی زبانِ مبارک سے زمین پر چلنے والے کسی شخص کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہلِ جنت میں سے ہے ماسوائے عبداللہ بن سلام کے۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب عبداللہ بن سلام 538/01۔ مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل عبداللہ بن سلام 02 /299﴾

109- حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار نمایاں تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ اہل جنت سے ہے۔

﴿بخاری کتاب المناقب عبداللہ بن سلام 538/01۔ مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل عبداللہ بن سلام 299/02﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جنت میں چلنا اور حضور ﷺ کا سننا:

110- حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اہل جنت نے کہا: یہ غمیصا بنت ملحان ہے، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ۔

﴿مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل اُمّ سلیم 292/02﴾

حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں:

111- حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے جنت دکھائی گئی۔ میں نے وہاں ابوطلحہ کی بیوی کو دیکھا۔ پھر اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو وہ بلال تھے۔ ﴿مُسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل بلال 292/02﴾

حضور ﷺ نے فرمایا: حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔

﴿بخاری کتاب المغازی باب فضل من شهد بدراً 567/02،

کتاب الرقاق باب صفة الجنة 970/02﴾

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنتی رومال:

112- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک حُلّہ تحفے کے طور پر پیش کیا گیا، پس آپ ﷺ کے اصحاب ہاتھ پھیر کر اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس کے ملائم ہونے پر تعجب کرتے ہو حالانکہ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے عمدہ ہوں گے یا یہ فرمایا کہ اس سے بھی نرم ہوں گے۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب سعد بن معاذ 536/01۔ مسلم

فضائل صحابه باب من فضائل سعد بن معاذ 294/02﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

113- شرکاء بدر رضی اللہ عنہم سب جنتی ہیں:

﴿بخاری کتاب المغازی باب فضل من شهد بدراً 567/02، کتاب الجهاد باب الجاسوس 422/01﴾

114- سب کے سب اصحاب شجرہ جنتی ہیں:

﴿مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل اصحاب شجرہ 302/02﴾

حسنینِ کریمین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں:

115- ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

﴿ابواب المناقب مناقب الحسن والحسین 218/02﴾

http://t.me/Tehqiqat

جنت میں حضور ﷺ کے ہمسائے:

116- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے (رضی اللہ عنہما)۔

﴿ترمذی ابواب المناقب مناقب ابی محمد طلحہ 215/02﴾

حضور ﷺ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں اُڑتے دیکھا:

117- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اُڑتے دیکھا ہے۔

﴿ترمذی ابواب المناقب مناقب جعفر بن ابی طالب 218/02﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

"یہ شخص جہنمی ہے"

118- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ خیبر گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے بارے میں فرمایا جو اسلام کا دعویدا تھا...... هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ...... یہ جہنمی ہے۔ جب قتال کا میدان گرم ہوا تو اُس آدمی نے خوب بڑھ چڑھ کر قتال کیا لیکن سخت زخمی ہوا مگر ثابت قدم رہا۔ پس نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص آ کر عرض گزار ہوا کہ یارسول اللہ (ﷺ)! اسے ملاحظہ تو فرمایئے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں کیسی بہادری سے لڑا ہے اور کیسا شدید زخمی بھی ہوا ہے۔ فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ اَمَا اِنَّهٗ، مِنْ اَهْلِ النَّارِ ...... تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پھر بھی وہ بے شک ہے جہنمی ...... بعض لوگوں کو شک لاحق ہو گیا کہ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ترکش میں سے ایک تیر کھینچا اور اسے گلے پر رکھ کر گلا چیر لیا۔ پس کئی مسلمان رسول اللہ ﷺ کی طرف لپکے اور عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا ارشاد گرامی سچ کر دکھایا، فلاں نے گلا چیر کر خودکشی کر لی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بلال! کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور بے شک اللہ تعالیٰ بدکار آدمی کے ذریعے بھی اس دین کی مدد فرماتا ہے۔

﴿بخاری کتاب الجهاد والسیر باب ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر 430/01، کتاب المغازی باب غزوہ خیبر 604/02، کتاب القدر باب العمل بالخواتیم 977/02۔ مسلم کتاب الایمان باب غلظ تحریم 72/01﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

سوال کرنے والے! تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے:

119-ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے قیامت سے پہلے جتنے بڑے بڑے امور ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بھی چیز کے متعلق پوچھنا چاہے گا میں اسے بتاؤں گا۔ آپ ﷺ کے بار بار فرمانے پر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا...... اَیْنَ مَدْ خَلِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ؟...... یارسول اللہ ﷺ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا: اَلنَّار ...... دوزخ۔

﴿بخاری کتاب الاعتصام باب مایکرہ من کثرۃ السوال 02/1083﴾

(تم جس کو شہید کہتے ہو) "میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے":

120- حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں بیٹھے باتیں کررہے تھے کہ فلاں شخص شہید ہوا اور فلاں شخص شہید ہوا۔ دوران گفتگو ایک شخص (رفاعہ بن زید نامی ایک غلام) کا ذکر ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ شہید ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کَلَّا اِنِّیْ رَاَیْتُہٗ فِی النَّارِ فِیْ بُرْدَۃٍ غَلَّھَا اَوْ عَبَاءَۃٍ...... ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی...... پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کردو کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حکم کے مطابق لوگوں میں اعلان کردیا۔

﴿مسلم کتاب الایمان باب غلظ تحریم الغلول 74/1﴾

جنگ خیبر میں اس شخص کو اچانک کہیں سے تیر لگا جس سے اس کا انتقال ہوگیا اور لوگ اسی بناء پر اسے شہید سمجھتے تھے مگر حضور ﷺ افراد کے اعمال کی اصلیت و حقیقت بھی جانتے ہیں اور ان کے اُخروی مقام بھی، اس لیے آپ ﷺ نے اس شخص کو جہنمی بتایا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جنت اور جہنم میں داخل ہونے والوں کا تفصیلی علم:

اسی باب میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے جس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جنتیوں اور جہنمیوں کا علم حاصل ہے۔ اب حضور ﷺ کے علم پاک کے بارے میں ایک اور جامع حدیث پاک پیشِ خدمت ہے۔

121- حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (ایک دن) رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ ﷺ کے دستِ مبارک میں دو کتابیں تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم ان دو کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جانتے۔ آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا: یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے۔ اس میں جنتیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد اور قبیلوں کے نام ہیں۔ آخر میں ان کا میزان (مجموعہ) ہے۔ اب ان میں کبھی کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہوگی۔ پھر دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا: اس میں جہنمیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ آخر میں میزان ہے۔ اب ان میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہوگی۔

﴿ترمذی ابواب القدر باجآء ان اللہ کتب کتاباً 36/02﴾

امام ترمذی نے اس مضمون کی ایک اور سند کے ساتھ روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی صحت کے اعلیٰ درجہ کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔

واضح ہوا کہ حضور ﷺ کو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے تمام افراد کے حالات اور اُخروی مقامات کی تفصیلی معلومات حاصل ہیں۔

علاوہ ازیں، یہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ بروزِ محشر، حضور ﷺ کا کچھ منافقین و

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مرتدین کو اپنے حوضِ کوثر کی طرف بلانا ان کے حال و مقام سے بے خبری کے باعث نہ ہوگا بلکہ انہیں شرمندہ کرنے اور حسرت دلانے کے لئے ہوگا۔ (آپ اس پر تفصیلی و تحقیقی گفتگو آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے، ان شاء اللہ)۔

اس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، دانائے غیوب ﷺ کو قبروں کے حالات اور آخرت کے مقامات کا غیبی علم عطا فرمایا ہے۔

حواشی

1۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے ادب و احترام کا کیسا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ حضور ﷺ کی شان وادنیٰ سی گستاخی سے نماز، روزہ تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی آپ ﷺ کے ادب و احترام کی اہمیت راسخ ہو جائے، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ساتواں باب

نہ جنت ہے مخفی

نہ دوزخ ہے اوجھل

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat
Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تفصیلاتِ محشر اور حضور ﷺ کا علمِ پاک

محشر کی مٹی کا رنگ:

122- حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو قیامت کے روز سفید اور چٹیل جگہ پر جمع کیا جائے گا جو گندم کی سفید روٹی کی طرح ہوگی۔

﴿بخاری کتاب الرِقاق باب یقبض اللّٰہ الارض 965/02﴾

محشر کے دن لوگوں کے تین گروہ:

123- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حشر کے روز لوگوں کے تین گروہ ہوں گے۔ ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اونٹوں پر دو تین چار اور دس دس تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی۔ ﴿بخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر 02/ 965﴾

محشر کے دن لوگ کس حالت میں ہوں گے؟

124- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا حشر اس حالت میں ہوگا کہ تم ننگے پیر، ننگے جسم اور غیر مختون ہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ (ﷺ)! کیا مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا: کہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس جانب توجہ بھی نہیں کر سکیں گے۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر 966/02﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

لوگ روزِ محشر پسینے پسینے:

125- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ بہہ نکلے گا یہاں تک کہ بعض لوگوں کا پسینہ تو زمین میں ستر گز تک پھیل جائے گا اوران کے منہ کو بند کر کے کان تک جا پہنچے گا۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب قول اللہ الا یظنّ 967/02﴾

اللہ تعالیٰ اور کافر کے درمیان کیا گفتگو ہوگی؟

126- قیامت کے روز کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا؟ وہ ہاں میں جواب دے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب من نوقش الحسا عذّب 968/02﴾

http://t.me/Tehqiqat

حوضِ کوثر کی تفصیلی معلومات:

127- حضور ﷺ نے فرمایا: میرا حوض ایک ماہ کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جو اس میں پی لے تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض 974/02﴾

128- ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے حوض کی لمبائی اتنی ہے جتنی دوری ایلہ اور صنعا کی یمن سے ہے۔ اس میں اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض 974/02﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تفصیلاتِ جنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک

جنت کے درخت کا ایسا طویل سایہ:

129- حضور ﷺ نے فرمایا: اِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَّا يَقْطَعُهَا ...... بے شک جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی پھر تیلے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سائے میں ایک سو سال تک بھی چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب صفة الجنة 970/02، کتاب بدء الخلق باب ماجآء فی صفة الجنة 461/01۔ مسلم کتاب الجنة 378/02﴾

http://t.me/Tehqiqat

جنت کا خوبصورت خیمہ:

130- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں تراشے ہوئے موتی کا ایک خیمہ ہے جس کی اونچائی آسمان میں تیس میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں مومن کے لئے ایسی عورتیں ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھتے...... مسلم کی روایت میں لمبائی ساٹھ میل مذکور ہے۔

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی صفة الجنة 460/01۔ مسلم کتاب الجنة 02/ 380﴾

جنت کی عورت کیسی ہے اور جنت کا دوپٹہ کیسا ہے؟

131- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں تمہاری کمان کے برابر یا قدم رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کے سارے سامان سے بہتر ہے اور اہل جنت کی کوئی

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

عورت زمین کی طرف جھانک لے تو ساری فضا جگمگا اُٹھے اور زمین و آسمان کی درمیانی جگہ مہکنے لگے اور جنت کا ایک دوپٹہ بھی دنیا اور اس کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب صفة الجنة و النار 02/972﴾

جنت کی مٹی کا رنگ کیسا ہے؟

132- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابنِ صیاد نے نبی کریم ﷺ سے جنت کی مٹی کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: باریک خالص سفید مشک۔

﴿مسلم کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد 02/398﴾

جنت کے دروازوں کی تعداد:

133- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: فِی الْجَنَّةِ ثَمَانِیَةُ اَبْوَابٍ فِیْهَا بَابٌ یُّسَمّٰی الرَّیَّانَ لَا یَدْخُلُهٗ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ ...... جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کا نام رَیّان ہے۔ اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة ابواب الجنة 01/ 461﴾

جنت کی خوشبو:

134- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی معاہدہ والے کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس برس کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔

﴿بخاری کتاب الجهاد والسير باب اثم من قتل معاهداً 01/448﴾

جنت کے درجے:

135- حضور ﷺ نے فرمایا: جنت کے سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

زمین اور آسمان کے درمیان۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ یہ جنت کا درمیانی اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔

﴿بخاری کتاب التوحید باب قوله وکان عرشه علی الماء 1104/02﴾

جنت والوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟

136- حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جنتی جو کھانا کھائیں گے، وہ مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ ہے۔ ﴿بخاری کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 969/02﴾

اہلِ جنت کے کھانے پینے کی مزید تفصیل:

137- حضور ﷺ نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے۔ وہ نہ تو تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے نہ رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک ڈکار (آئے گی) اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس آتا جاتا ہے۔ ﴿مسلم کتاب الجنة 379/02﴾

جنت کے دریاؤں کے نام:

138- حضور ﷺ نے فرمایا: سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ سب جنت کے دریا ہیں۔

﴿مسلم کتاب الجنة 380/02﴾

اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے کیا کلام فرمائے گا؟

139- حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اہلِ جنت! وہ عرض کریں گے کہ ہم اپنے رب کے لئے حاضر و مستعد ہیں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

وہ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں کیا ہوا ہے جو ہم راضی نہ ہوں حالانکہ ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا۔ رب فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ نہ دوں؟ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! وہ کیا چیز ہے جو اس سے افضل ہے؟ فرمائے گا کہ میں نے اپنی رضا مندی تمہارے لئے حلال کی، لہٰذا اس کے بعد اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

﴿بخاری کتاب التوحید باب کلام الرّبّ مع اھل الجنّة 1211/02، کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 969/02﴾

جنت کا جمعہ بازار اور اہلِ جنت کا حسن وجمال:

140- حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو آیا کریں گے۔ پھر شمال کی ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے اور کپڑے بھر جائیں گے اور ان کا حُسن وجمال مزید بڑھ جائے گا، پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہ کہیں گے: بخدا ہمارے بعد تمہارا حُسن وجمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے: بخدا ہمارے بعد تمہارا حُسن وجمال بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ ﴿مسلم کتاب الجنة 379/02﴾

جنت کی دیگر نعمتیں:

141- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ انہیں تھوکنے، ناک صاف کرنے اور قضائے حاجت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور کنگھے سونے چاندی کے۔ ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبو دار ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو دو بیویاں ملیں گی جن کے گوشت کا مغز ان کی پنڈلیوں کے آر پار سے نظر آ گے گا، ایسی حسین ہوں گی۔ ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں ذرا بھی بغض ہوگا۔ ان کے دل متحد ہوں گے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

وہ صبح وشام اللہ کی تسبیح سے لطف اندوز ہوں گے۔

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی صفة الجنة 460/01۔ مسلم کتاب الجنة 002 / 379﴾

جنتیوں کی سدا بہار جوانی:

142- حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص جنت میں داخل ہوگا، اس کو نعمتیں دی جائیں گی پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔

﴿مسلم کتاب الجنة 02 /380﴾

جنت کی خوبصورت حوریں:

143- حوریں دیکھ کر آنکھ محوِ حیرت ہو جائے گی، انکی آنکھوں کی سیاہی بہت تیز ہوگی اور اسی طرح سفیدی بھی ﴿بخاری کتاب الجہاد باب الحور العین و صفتھنّ 392/01﴾

جنت میں کھیتی باڑی کرنے والا:

144- حضور ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں ایک آدمی اپنی رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا۔ اس سے فرمایا جائے گا: کیا میں نے تجھے تیری مرضی کی ہر چیز نہیں دی؟ وہ عرض کرے گا: کیوں نہیں لیکن میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ پس وہ جلد ہی کام کرنا شروع کر دے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتی کا اُگنا، بڑھنا اور کٹنا شروع ہو جائے گا اور غلے کے پہاڑوں کی طرح انبار لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابنِ آدم! اسے لے لے کیونکہ کوئی چیز تجھے شکم سیر نہیں کرتی (حضور ﷺ کی محفل میں بیٹھا ہوا) دیہاتی عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ (ﷺ)! ہم تو قریشیوں اور انصاریوں کو ہی ایسا پاتے ہیں۔ کیونکہ یہی کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم زراعت پیشہ نہیں ہیں۔ پس اس پر حضور ﷺ مسکرا دیے۔

﴿بخاری کتاب التوحید باب کلام الرّبّ مع اهل الجنّة 02/ 1121﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا؟

145۔رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اِنِّي لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَھْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ...... بے شک میں اس شخص کو یقیناً جانتا پہچانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا...... وہ شخص کولہوں کے بل گھسٹا ہوا جہنم سے نکلے گا۔اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔وہ شخص جنت میں جا کر دیکھے گا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔اس شخص سے کہا جائے گا: کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جسے گزار کر آئے ہو؟ وہ ہاں میں جواب دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: تمنا کرو۔وہ تمنا کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: تم نے جو تمنا کی ہے وہ بھی لے لو اور تمام دنیا کی دس گنا جگہ بھی۔وہ شخص کہے گا: تُو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔حالانکہ تُو مالک ہے۔

﴿مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعۃ 105/01۔ بخاری کتاب الرقاق باب صفۃ الجنۃ 972/02﴾

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تفصیلاتِ جہنم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمِ پاک

جہنم کی آگ:

146- حضور ﷺ نے فرمایا: نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔ ﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة النار 01/461﴾

147- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تمہاری آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا: یارسول اللہ (ﷺ)! یہ آگ بھی کافی گرم ہے۔ فرمایا: وہ آگ اس سے انہتر حصہ زیادہ گرم ہے اور ہر حصہ میں اس کے برابر گرمی ہے۔

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة النّار 01/462﴾

آگ کی ستر ہزار لگامیں:

148- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس روز جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی۔ ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے ﴿مسلم کتاب الجنة باب جهنم 02/381﴾

جہنم کی گہرائی:

149- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے کہ آپ ﷺ نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔

فرمایا: یہ ایک پتھر ہے جسے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ یہ اب تک اس میں گر رہا تھا اور اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ ﴿مسلم کتاب الجنة باب جهنم 2/381﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کافر کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ:

150- حضور ﷺ نے فرمایا: دوزخ میں کافر کے دو کندھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کے تین دن کے سفر کے برابر فاصلہ ہوگا۔ ﴿مسلم کتاب الجنۃ باب جہنم 382/02﴾

کافر کی داڑھ:

151- فرمایا: کافر کی داڑھ اُحد پہاڑ جتنی ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ﴿مسلم کتاب الجنة باب جهنم 382/02﴾

جہنم کا ہلکا ترین عذاب کیا ہوگا؟

152- رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے تلووں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھ دیئے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ﴿مسلم کتاب الایمان باب شفاعة النّبی ﷺ 115/01﴾

یہ جنت اور جہنم، سب کچھ حضور ﷺ نے دیکھا ہوا ہے:

153- حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے..... فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ...... ثُمَّ قَالَ مَامِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهٗ، اِلَّا قَدْ رَاَيْتُهٗ، فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا اَدْرِيْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَآءُ يُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهٗ مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لَا اَدْرِيْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَآءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جَآءَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَّاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لَا اَدْرِيْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَآءُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهٗ۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

﴿بخاری کتاب العلم باب من اجاب الفتیا 18/01، کتاب الوضو باب من لم یتوضا 30/01﴾

"جب حضور ﷺ (نماز گرہن سے) فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا...... جو چیز آج تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ میں نے اس جگہ دیکھ لی ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا [1] اور میری طرف وحی کی گئی کہ تم لوگ قبروں میں اس طرح یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے (فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا کلمہ کہا) جیسے مسیح دجال سے آزمائے جاؤ گے۔ تمہارے ہر ایک کے پاس فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا: اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مؤمن یا موقن (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) مجھے یاد نہیں اسماء نے ان دو میں سے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، تو کہے گا کہ یہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی بات مانی، ایمان لائے اور پیروی کی۔ اس سے کہا جائے گا: سو جا، ہمیں معلوم ہے کہ تو صالح انسان ہے۔ لیکن منافق یا شک کرنے والا (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں) مجھے یاد نہیں رہا کہ ان دو الفاظ میں سے اسماء نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، کہے گا: میں نہیں جانتا، لوگوں کو کہتے سنا پس میں نے بھی کہہ دیا"

آپ ﷺ نے جنت اور جہنم کو اتنا قریب سے دیکھا کہ......:

154-وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَیْتُ فِیْ مَقَامِیْ هٰذَا كُلَّ شَیْءٍ وُعِدْتُّمْ حَتّٰی لَقَدْ رَاَیْتُنِیْ اُرِیْدُ اَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِّنَ الْجَنَّةِ حِیْنَ رَاَیْتُمُوْنِیْ جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ وَقَالَ الْمُرَادِیُّ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَاَیْتُ جَهَنَّمَ یَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِیْنَ رَاَیْتُمُوْنِیْ تَاَخَّرْتُ وَرَاَیْتُ فِیْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَیٍّ وَهُوَ الَّذِیْ سَیَّبَ السَّوَآئِبَ۔ ﴿مسلم کتاب الکسوف 296/01﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

"اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنی اس نماز کے قیام میں ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے حتیٰ کہ بالیقین میں نے دیکھا کہ میں جنت کے خوشوں کو توڑ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور بالیقین میں نے جہنم کو دیکھا جس وقت تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا اور بالیقین میں نے دیکھا کہ جہنم کا بعض بعض کو پاش پاش کر رہا ہے۔ میں نے دوزخ میں عمرو بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے ساتھ نامزد اونٹوں کے کھانے کو حرام قرار دیا تھا"

ثُمَّ قَالَ اِنَّہٗ عُرِضَ عَلَیَّ کُلُّ شَیْءٍ تُوْلِجُوْنَہٗ فَعُرِضَتْ عَلَیَّ الْجَنَّۃُ حَتّٰی لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْھَا قِطْفًا اَخَذْتُہٗ اَوْقَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْھَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ یَدِیْ عَنْہُ وَعُرِضَتْ عَلَیَّ النَّارُ فَرَاَیْتُ فِیْھَا امْرَاَۃً مِنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ تُعَذَّبُ فِیْ ھِرَّۃٍ رَبَطَتْھَا فَلَمْ تُطْعِمْھَا وَلَمْ تَدَعْھَا تَاْکُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ وَرَاَیْتُ اَبَا ثُمَامَۃَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ یَجُرُّ قُصْبَہٗ فِی النَّارِ۔ ﴿مسلم کتاب الکسوف 1/297﴾

پھر فرمایا: مجھ پر تمام چیزیں پیش کی گئیں جن میں تم داخل ہو گے۔ مجھ پر جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اس میں کوئی خوشہ لینا چاہتا تو لے لیتا لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس سے روک لیا۔ مجھ پر جہنم پیش کی گئی، میں نے جہنم میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو بلی کے سبب عذاب ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اسے خود کچھ کھانے کو دیا نہ اسے چھوڑا تا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے کچھ چیز کھا لیتی اور میں نے جہنم میں ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔

155- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا...... جب میں جنت پر مطلع ہوا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر غریب لوگ ہیں اور جب میں جہنم پر مطلع ہوا تو دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

﴿بخاری کتاب النکاح باب کفران العشیر 783/2 کتاب بدء الخلق، کتاب الرقاق باب صفة الجنّة والنّار 969/2﴾

156- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے جہنم کو دیکھا اور آج جیسا دردناک منظر پہلے بالکل نہیں دیکھا تھا اور میں نے اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! کس وجہ سے؟ فرمایا: ان کے کفر کے سبب۔ عرض کیا گیا: کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا: وہ خاوند کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر نیکی کرتے رہو پھر تم سے کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری طرف سے کوئی بھلائی قطعاً نہیں دیکھی۔ ﴿بخاری کتاب النکاح باب کفران العشیر 782/2﴾

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ:

https://t.me/Tehqiqat

(1) حضور ﷺ نے ایسی طویل وعریض جنت اور دوزخ کو بلا حجاب اپنی آنکھوں سے ایسے یقین کے ساتھ دیکھ لیا کہ آپ ﷺ نے بار بار...... لَقَدْ ...... کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ کسی کے لئے شک وشبہ کی گنجائش نہ رہے۔

(2) حضور ﷺ کا یہ دیکھنا ایسا قریب سے ہے کہ جنت کے پھل حضور ﷺ کی دسترس میں آ گئے۔ آپ ﷺ کا خوشے توڑنے سے رُک جانا مصلحت وحکمت کے سبب تھا ورنہ خوشے توڑنے میں کوئی مشکل ورکاوٹ نہ تھی۔

(3) جنت کے ان خوشوں کا حضور ﷺ کی دسترس میں آ جانا اور آپ کا ان خوشوں کو توڑنے کا ارادہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام زمینی نعمتیں تو ایک طرف، جنتی نعمتیں بھی حضور ﷺ کے تصرف واختیار میں ہیں ورنہ پرائی اشیاء میں تصرف تو کجا اس کا ارادہ بھی حضور ﷺ سے متصور نہیں ہوسکتا۔

(4) جنت ودوزخ پیدا ہو چکی ہیں بلکہ متعدد احادیث پاک کے مطابق حضور ﷺ نے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جنتیوں کو جنت میں فرحاں وشاداں اور دوزخیوں کو دوزخ میں شدید عذاب میں گرفتار و پریشاں دیکھا ہے۔ ﴿احادیث معراج میں اس کا تفصیلی بیان ملاحظہ کیا جا سکتا ہے﴾

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی قیامت تو قائم ہوئی نہیں اور نہ میزان پر لوگوں کا حساب ہوا ہے تو پھر آپ ﷺ نے جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں کیسے دیکھ لیا؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ رب کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے وقت کے تمام دورانیے اور فاصلے کے تمام مرحلے سمیٹ کر اور تمام حجابات اٹھا کر قیامت کے بعد پیش آنے والے حالات واقعات اپنے پیارے محبوب، دانائے غیوب ﷺ کے سامنے منکشف فرما دیئے۔

اب حضور ﷺ کے ایسی قطعی ارشادات کے باوجود بھی کوئی شخص شک وشبہ کا اظہار کرے یا زبان طعن دراز کرے تو اس بدنصیب کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ربّ قدیر کی قدرت کو اپنے طعن کا نشانہ بنا رہا ہے (معاذ اللہ)۔

(5) احادیثِ پاک میں مختلف لوگوں کے عذاب میں گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب کے اسباب کا علامتی بیان یہ سمجھانے کے لئے کافی ہے کہ حضور ﷺ لوگوں کے اعمال وافعال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔

حواشی

1. یہ کہنا درست نہیں کہ یہ کشف وعلم محض اسی موقع ومجلس میں حاصل رہا پھر سلب کرلیا گیا۔ کیا قرآن وحدیث سے کوئی ایسی دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو علم ومشاہدے کی یہ نعمت دے کر چھین لی تھی۔ اس کے برعکس قرآن تو کہتا ہے، (اے محبوب) تمہاری آنے والی گھڑی (حالت) پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 04 سورۃ الضحیٰ۔ ایک اور پہلو سے بھی غور فرمائیں، اگر مخلوق کے لئے علم غیب کا ثبوت ہے ہی شرک تو کیا کچھ دیر کے لئے شرک جائز اور روا ہو گیا تھا؟

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

آٹھواں باب

جو چاہو پوچھ لو

میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قیامت تک کی چیزوں کا تفصیلی بیان

157- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً مَّاتَرَكَ فِيهَا شَيْئاً اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَى الشَّيْئَ قَدْ نَسِيْتُ فَاَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ اِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاٰهُ فَعَرَفَهُ۔

﴿بخاری کتاب القدر باب و کان امر اللہ قدراً مقدوراً 977/02﴾

"بے شک نبی کریم ﷺ نے ہمیں ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس میں بیان کرنے سے قیامت تک کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جان گیا جو جان گیا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں جسے میں بھول گیا تھا تو اسے جان جاتا ہوں جیسے کوئی شناسا گم ہو جائے لیکن دیکھنے پر اسے پہچان لیا جاتا ہے"

اول تا آخر کا سارا علم:

158- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک دن نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔

فَاَخْبَرَ عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

﴿بخاری کتاب بدء الخلق باب وھو الذی یبدأ الخلق 01/ 453﴾

تو حضور ﷺ نے مخلوق کی پیدائش کی ابتداء بتانا شروع کی حتّٰی کہ جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے اور دوزخی اپنے مقام پر۔ پس اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بحرِ علم کی وسعتیں:

159- حضرت ابوزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر ہو گئی۔ آپ ﷺ نے منبر سے اتر کر ہمیں ظہر پڑھائی۔ پھر منبر پر تشریف لائے تو ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر ہو گئی۔ پھر آپ ﷺ منبر سے اترے تو ہمیں نمازِ عصر پڑھائی۔ پھر آپ ﷺ منبر پر تشریف لائے تو ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا...... فَاَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا......

﴿مسلم کتاب الفتن 02/390﴾

تو حضور ﷺ نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتا دیں جو ہو چکی تھیں اور جو ہونے والی تھیں۔ سو جو ہم میں سے زیادہ حافظے والا ہے، وہ زیادہ عالم ہے۔

"اور وہ غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں" (القرآن)

160- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

اَخْبَرَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاهُوَ كَائِنٌ اِلٰى اَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَیْئٌ اِلَّا قَدْ سَاَلْتُهٗ اِلَّا اَنِّیْ لَمْ اَسْاَلْهُ مَا يُخْرِجُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ

﴿مسلم کتاب الفتن 02/390﴾

قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے مجھے دے دی ہے اور ہر چیز کے بارے میں میں نے آپ ﷺ سے سوال کیا البتہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کیا چیز مدینہ سے نکالے گی؟

علم کی بٹتی ہے خیرات مدینے میں:

مخلوق کی ابتدا سے لے کر آخر تک کوئی شے حضور ﷺ کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہ تھی۔ آپ ﷺ نے گزرے ہوئے حالات و واقعات کے علاوہ آئندہ کے غیبی حالات و

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

واقعات (مافی غد) کا ایسا واضح اور کامل بیان فرمایا کہ......

161- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں...... اللہ تعالیٰ کی قسم! میں اندازہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانا ظاہر کرتے ہیں۔ دنیا کے ختم ہونے تک ایسے جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سو ہوگی، حضور ﷺ نے ہمیں ان کے نام، ان کے آباء (باپوں) کے نام اور ان کے خاندانوں کے نام (سب کچھ) بتا دیا۔

﴿ابوداؤد کتاب الفتن 02/231﴾

سچ ہے ہمارے حضور ﷺ جیسا وسیع جاننے والے ہیں ویسا ہی فراخ عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ کی اسی عطا کو تو قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔...... وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ...... اور وہ غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں۔

162- حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا......

﴿مسند احمد ج05، صفحہ 153۔ طبرانی۔ طبقات ابن سعد۔ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابنِ کثیر﴾

"حضور ﷺ نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور ﷺ نے ہم سے بیان نہ کیا ہو"

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایسے صریح اور ایمان افروز بیان کے بعد حضور ﷺ کے وسیع اور تفصیلی علم کے بارے میں شک وشبہے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تاہم اطمینان مزید کے لئے مزید احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔

"مجھ سے جو پوچھو گے، میں بتاؤں گا"

163- حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سورج ڈھلنے کے بعد نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیر دیا تو آپ ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور ان بڑے بڑے امور کا جو قیامت سے پہلے ہیں۔ پھر فرمایا...... مَنْ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اَحَبَّ اَنْ يَّسْئَلَ عَنْ شَيْئٍ فَلْيَسْئَلْ فَلَا تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْئٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ مَّادُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا ......تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق پوچھنا چاہے تو پوچھ لے۔ جب تک میں یہاں ہوں، جو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا چاہے گا میں اسے بتادوں گا......حضرت انس ﷛ کا بیان ہے کہ لوگوں نے شدت سے گریہ زاری شروع کردی اور......اَكْثَرَاَنْ يَّقُوْلَ سَلُوْنِيْ ......(رسول کریم ﷺ بار بار فرماتے رہے: مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو)......حضرت انس ﷛ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا ......اَيْنَ مَدْ خَلِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟......یارسول اللہ (ﷺ)! میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا......اَلنَّارُ (دوزخ)۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ ﷛ نے کھڑے ہو کر عرض کیا......مَنْ اَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ (یارسول اللہ (ﷺ)! میرا باپ کون ہے؟) فرمایا......اَبُوْكَ حُذَافَةُ......(تیرا باپ حذافہ ہے)۔

راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ ﷺ بار بار فرماتے رہے، سَلُوْنِيْ سَلُوْنِيْ (مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو) چنانچہ حضرت عمر ﷛ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہیں ......حضرت عمر ﷛ نے یہ گزارش کی تو رسول ﷺ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئیں جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا۔

﴿بخاری کتاب مواقیت الصّلوٰة باب وقت الظهر عند الزوال 77/01، كتاب الدعوات باب التّعوّذ من الفتن 941/02، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة باب مايكره من كثرة السّوال 1083/02﴾

اگر مگر کے رستے بند:

164- حضرت ابوموسیٰ اشعری ﷛ سے مروی یہ حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو......فرماتے ہیں

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کہ رسول کریم ﷺ سے چند باتیں پوچھیں گئیں جو مزاج اقدس کے موافق نہ تھیں۔ جب پوچھنے پر اصرار کیا گیا تو آپ ﷺ کو غصہ آ گیا اور آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا ......سَلُوْنِیْ عَمَّا شِئْتُمْ......(اب) جو چاہو مجھ سے پوچھ لو......ایک شخص بولا، میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حُذافہ......پھر دوسرا کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا: میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: سالم جو شیبہ کا غلام ہے......حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرے پر جلال کے آثار دیکھے تو عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔

﴿بخاری کتاب العلم باب الغضب فی الموعظة والتعلیم 19/01﴾

فوائد:

(1) جو باتیں حضور ﷺ سے پوچھی گئیں، ان کا تعلق شریعت کے ضروری احکام و مسائل سے نہ تھا اس لئے کہ احکام شریعت کی تعلیم و تلقین اور وضاحت و تشریح آپ ﷺ کے فرائض منصبی میں شامل تھی۔ اس کے لیے اصرار کی ضرورت تھی اور نہ آپ ﷺ غضبناک ہوتے۔

(2) جو کچھ حضور ﷺ نے ہم تک پہنچایا، آپ ﷺ اس سے کہیں زیادہ علم رکھتے تھے۔ جو مناسب جانا وہ بتلا دیا اور وہ بہت کچھ جس کا بتلانا ضروری خیال نہ کیا، مخفی رکھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی خاموشی اور کئی مرتبہ کسی چیز کے بارے میں وضاحت نہ کرنا کسی حکمت کے باعث ہوتا تھا اسے لاعلمی اور بے خبری کی دلیل بنا لینا کسی طور پر درست نہیں

(3) حضور ﷺ نے ......سَلُوْنِیْ، سَلُوْنِیْ، سَلُوْنِیْ عَمَّا شِئْتُمْ......(پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے جو تم چاہو) فرما کر اپنی پیشکش کو عموم پر رکھا۔

آپ ﷺ نے قید و تخصیص نہ رکھی کہ یہ پوچھ لو، میں جانتا ہوں۔ وہ نہ پوچھو، میں نہیں جانتا۔ آپ ﷺ کے اس فرمان کا واضح مطلب یہی ہے کہ مجھے میرے رب نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ ﷺ کے اس فرمان کے بعد بھی آپ ﷺ کے علم پاک کی وسعت کے بارے میں طعن و اعتراض کیا جائے تو پیش نظر رہے کہ یہ رویّہ حضور ﷺ کے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ساتھ دلوں میں کدا اور کینہ رکھنے والے منافقین کا ہے۔

(4) حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اور ابن سالم رضی اللہ عنہ کا اپنے نسب کے بارے میں سوال کرنا، یہ واضح کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور ﷺ ہر شخص کے نسب کی اصلیت وحقیقت کا غیبی علم رکھتے ہیں ورنہ اپنے نسب کی ظاہر معلومات تو ہر شخص کو حاصل ہوتی ہیں۔ پھر حضور ﷺ نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم؟ میں غیب کی بات کیا جانوں؟ بلکہ آپ ﷺ نے ان کے نسب کے بارے میں بتا کر گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عقیدہ کی توثیق فرمادی۔

(5) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے چہرہ انور کے تاثرات دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جانتے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ حضور ﷺ کی ناراضگی رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ رب تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لئے حضور ﷺ کی رضا کے لئے کوشاں رہنا از بس ضروری ہے۔ تمام عبادات وریاضات کی بارگاہ الٰہی میں قبولیت کا مدار وانحصار فقط حضور ﷺ کی رضا مندی پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب پاک ﷺ کی رضا جوئی کے لئے کوشاں رکھے، آمین۔

بخاری ومسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، دانائے غیوب ﷺ کو اول تا آخر کا وسیع علم عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے وسیع اور جامع علم کو آپ ﷺ کی طرف سے ظاہر کی گئی غیبی خبروں...... اَنْبَاءُ الْغَیْب...... میں محدود سمجھنا بھی درست نہیں اس لئے کہ آپ ﷺ نے جو کچھ ظاہر فرمایا وہ لوگوں کے ظرف اور ضرورت کے مطابق تھا جب کہ آپ ﷺ اس سے کہیں زیادہ غیب کا علم رکھنے والے تھے جس کی وسعت کی جھلکیاں آپ نے اس کتاب میں اور خصوصاً اس باب میں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

نواں باب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی برکتیں

http://t.me/faizanigat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

''اور اسلام میرے دل میں سما گیا''

165- مسند احمد، اسد الغابہ، تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور ﷺ کو پریشان کرنے کیلئے گھر سے نکلا۔ میرے پہنچنے سے پہلے حضور ﷺ حرم میں داخل ہو کر نماز شروع کر چکے تھے۔ اس وقت آپ ﷺ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں اس کلام کے نظم و اسلوب کے باعث حیران ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ خدا کی قسم! آپ ﷺ تو بہت بڑے شاعر ہیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِیْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿الحاقہ: 41﴾ ......اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔

میں نے دل ہی دل میں کہا: کاہن ہیں جو میرے دل کی بات جان گئے ہیں۔

حضور ﷺ نے سورۃ الحاقہ کی یہ آیات ﴿42,43﴾ پڑھیں:

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○ تَنْزِیْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○

''اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اسلام پوری طرح میرے دل میں سما گیا۔

حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا دلچسپ واقعہ:

166- حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بدر میں قریش پر جو مصیبت نازل ہوئی، اس سے کچھ ہی دنوں بعد عمیر بن وہب جمحی مقام حجر میں صفوان بن اُمیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی طرف سے حضور ﷺ کو قیام مکہ کے دوران دکھ ہی پہنچتے رہے۔ اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

عُمَیر بن وھب اور صفوان بن امیہ کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی:

عُمَیر: بدر میں ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کیا مصیبت اٹھائی۔ ظالم مسلمانوں نے کس بے رحمی سے ہمارے ساتھیوں کو گڑھے میں پھینک دیا۔

صفوان: واللہ! ان کے بعد تو اب زندگی کا کوئی لطف نہیں رہا۔

عمیر: واللہ! تو نے سچ کہا۔ اللہ کی قسم! اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں اور میرے بال بچے نہ ہوتے جن کا اپنے بعد برباد ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے تو میں سوار ہو کر محمد ﷺ کو قتل کرنے جاتا کیونکہ اب تو ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔

صفوان: تمہارا قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ تمہارے بچوں کی کفالت بھی میرے ذمے رہی۔

عمیر: بس آج کی یہ گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ایک راز ہی رہے۔

صفوان نے یہ بات مان لی اور عُمَیرؓ کی روانگی کے بعد لوگوں سے کہنے لگا: تمہیں خوشی ہو، چندروز میں تمہارے پاس ایک واقعہ کی خبر آئے گی جس سے تم بدر کی سب مصیبتیں بھول جاؤ گے۔

عُمَیر ایک تلوار آڑی لٹکائے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدر کے متعلق رب تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ عُمَیر نے اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھا دیا۔

عُمَیر کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: یہ کتا عُمَیر کسی شرارت کیلئے ہی آیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عُمَیر! تو نے جاہلیت کا سلام کہا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے اس سلام سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے اور وہ سلام جنت والوں کی دعا ہے۔

بعد ازیں نبی کریم ﷺ نے پوچھا: عُمَیر! کیسے آنا ہوا؟

عُمَیر: اپنے بیٹے کے لئے جو آپ کے پاس قید ہے۔

رسول اللہ ﷺ: پھر گلے میں آڑی تلوار کیوں لٹکائی ہے؟

عُمَیر: خدا ان تلواروں کا برا کرے، ان تلواروں نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

رسول اللہ ﷺ: عُمَیر! مجھے سچ سچ بتا دو، کس لئے آئے ہو؟

عُمَیر: فقط اپنے بیٹے کے لئے آیا ہوں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

رسول اللہ ﷺ: نہیں یہ بات نہیں بلکہ تو اور صفوان حطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نے بدر کے مقتولین کا ذکر کیا جو گڑھے میں پھینکے گئے تھے۔ پھر تو نے کہا: مجھ پر قرض اور بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد ﷺ کو قتل کرنے نکلتا۔ یہ سن کر صفوان نے تیرے قرض اور تیرے بچوں کا بوجھ اپنے ذمہ لیا تاکہ تو مجھے قتل کر دے مگر میرے اور تیرے اس ارادے کی تکمیل کے درمیان میرا اللہ حائل ہے۔

عُمَیْر: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یارسول اللہ (ﷺ)! ہم آپ پر نازل ہونے والی آسمانی وحی کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ آج جو بات آپ ﷺ نے بتائی ہے وہ میرے اور صفوان کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ اللہ کی قسم! میں خوب جانتا ہوں کہ یہ بات اللہ کے سوا آپ ﷺ کو کسی نے نہیں بتائی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی توفیق بخشی۔ پھر انہوں نے سچی گواہی دی اور حضور ﷺ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے (رضی اللہ عنہ)۔

حضور ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے بھائی عُمَیْر کو دین کی تعلیم دو اور قرآن پڑھاؤ اور اُن کیلئے ان کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ ﴿سیرت ابن ہشام۔ تاریخ طبری بروایت عروہ بن زبیر﴾

نوٹ: یہ واقعہ ترکی کے ڈاکٹر عبدالرحمان رافت پاشا کی کتاب صُوَر مِنْ حَیَاۃِ الصَّحَابہ میں بھی درج ہے جس کا ترجمہ غیر مقلد عالم، مجلہ دعوۃ الحق کے ایڈیٹر محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا ہے۔

غیب کا بیان سنا اور اسلام کی گواہی دے دی:

167- تفسیر خازن میں ہے کہ سورۃ انفال کی آیت یٰٓاَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّمَنْ فِیْٓ اَیْدِیْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى...... حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگِ بدر میں کفار کے لشکر کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی اور اس غرض سے اپنے ساتھ بیس اُوقیہ سونا لے کر چلے تھے لیکن جس دن ان کے کھلانے کی باری تھی، عین اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آ گیا اور خرچ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور یہ سونا ان کے پاس محفوظ رہا۔ جب یہ گرفتار ہوئے تو یہ سونا ان سے لے کر مالِ غنیمت میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ ادا کرنے کے لئے کہا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا محمد (ﷺ)! کیا آپ مجھے اس حال میں چھوڑیں گے کہ میں باقی عمر قریش سے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مانگ کر بسر کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر وہ سونا کہاں ہے جو مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تم نے اپنی بی بی اُم الفضل کو دیا تھا؟ اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ نہ جانے کیا حادثہ پیش آ جائے، اگر میں جنگ میں کام آ گیا تو یہ تیرا ہے اور تیرے بیٹوں عبداللہ، عبیداللہ اور فضل و قثم کا ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ ﷺ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ﷺ سچے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں...... میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔

اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔

﴿تفسیر خازن جزء الثالث ص 53۔ تفسیر معالم التنزیل جزء الثالث ص 53۔ کامل ابن اثیر جلد 2 ص 133 غزوہ بدر۔ احکام القرآن للقرطبی ج 8 ص 53 بیروت﴾

باذان (رضی اللہ عنہ)! تیری عظمت کو سلام:

168- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسریٰ کے نام نامۂ مبارک بھیجا تو حکم فرمایا کہ یہ بحرین کے حاکم تک پہنچا دیا جائے اور بحرین کا حاکم اسے کسریٰ تک پہنچا دے۔ جب کسریٰ نے نامۂ مبارک پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کے لئے دعاءِ ضرر کی کہ وہ پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔

﴿بخاری کتاب الجہاد و السیر باب دعوۃ الیہودی و النصرانی 41/01﴾

اب اس کے متعلق کچھ تفصیل پیش خدمت ہے:

169- ایران کے بادشاہ کسریٰ خسرو پرویز نے حضور ﷺ کا خط پھاڑنے کے بعد اپنے یمن کے گورنر باذان کو لکھا کہ اپنے دو دلیر آدمی حجاز میں بھیجو تا کہ وہ نبوت کے دعوے دار کو پکڑ کر میرے پاس لائیں۔ باذان نے اپنے دو افراد قہرمان بابویہ اور خرخسرہ کو اس مقصد کیلئے مدینہ بھیجا۔ باذان نے بابویہ سے کہہ دیا کہ اس مدعی نبوت سے گفتگو کرنا اور پھر اس کے حال سے آگاہ کرنا۔ یہ دونوں افراد مدینہ پہنچ کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جہاں بابویہ نے ساری صورت حال عرض کر دی۔

حضور ﷺ نے فرمایا: تم کل میرے پاس آنا۔ جب وہ دوسرے دن حاضر ہوئے تو حضور

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ﷺ نے فرمایا: فلاں مہینے کی فلاں رات کو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو ہلاک کر دیا اور اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر مسلط کر دیا۔

یہ غیبی خبر سن کر قاصد بولے، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بادشاہ باذان کو اس سے آگاہ کر دیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں میری طرف سے اسے یہ خبر بھی دے دو کہ میرا دین اور میری حکومت کسریٰ کے ملک کی انتہا تک پہنچ جائے گی اور باذان سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم اسلام لاؤ تو تمہارا ملک تمہیں ہی عطا کر دیا جائے گا۔

قاصدوں نے مدینہ کی حاضری کا تمام واقعہ باذان کی خدمت میں عرض کر دیا۔

زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ باذان کو یہ خبر پہنچ گئی کہ فلاں دن خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور اس کے قتل کا وہی دن تھا جس دن کی اطلاع اللہ کے محبوب ﷺ نے دی تھی۔ ساتھ ہی خسرو کے بیٹے شیرویہ نے باذان کو لکھا کہ تم لوگ میری اطاعت کا عہد لے لو اور اس مُدّعی نبوت کو جس کے بارے میں کسریٰ نے تمہیں کچھ لکھا تھا، برا بھلا مت کہو۔ حضور ﷺ کی غیبی خبر کی سچائی دیکھ کر باذان مسلمان ہو گیا اور جتنے ایرانی یمن میں تھے، سب ایمان لے آئے۔

﴿سیرت ابن ہشام اُردو 01/ 100 غلام علی اینڈ سنز لاہور۔ اصابہ ترجمہ جد جیرہ 01/ 390۔ دلائل النبوۃ ابو نعیم﴾

عتاب اور حارث پکار اُٹھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں:

170- فتح مکہ کے دن حضور ﷺ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان کہی۔ ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اُسید اور حارث بن ہشام، کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان سن کر عتاب بن اُسید بولا: اللہ نے میرے باپ کو یہ شرف بخشا کہ اس نے یہ آواز نہ سنی۔ اگر وہ یہ آواز سنتا تو اسے بہت رنج پہنچتا۔ حارث بن ہشام کہنے لگا، خدا کی قسم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اُسید اس آواز کو مٹا رہا ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں تو کوئی بات نہیں کہتا۔ اگر کچھ کہوں گا تو یہ کنکریاں بھی ان کو میری باتیں پہنچا دیں گی۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اس ساری گفتگو کے بعد حضور ﷺ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا' تم نے جو گفتگو کی ہے مجھے اس کا علم ہے، تم نے یہ یہ باتیں کی ہیں۔

جیسے ہی حضور ﷺ نے تمام باتیں بتائیں، حارث اور عتاب کہہ اُٹھے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں! اللہ کی قسم! ہماری باتوں کا ہمارے سوا کسی کو علم نہ تھا ورنہ ہم کہہ سکتے تھے کہ اس نے آپ کو بتائی ہیں۔ ﴿سیرت ابن ہشام اردو 2/490﴾

یہ غیب کی باتیں ہیں جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا:

171- حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو (یہود کے ایک بڑے عالم) عبداللہ بن سلام آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کچھ پوچھیں۔ عرض کیا کہ میں آپ ﷺ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا (اس لئے کہ ان کا تعلق غیب سے ہے)۔

(1) قیامت کی سب سے پہلی نشانی۔ (2) اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا۔

(3) بچہ کبھی باپ کی شکل پر اور کبھی ماں کی صورت پر کیوں ہوتا ہے؟

حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے جبرائیل نے ابھی بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں سے وہ تو یہود کے دشمن ہیں۔

بہر حال حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کو لے جائے گی اور وہ کھانا جسے جنتی لوگ سب سے پہلے کھائیں گے، وہ مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ ہوگا۔ رہی تیسری بچے والی بات تو جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مرد کی شکل پر ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ عورت کی شکل پر ہوتا ہے۔

جیسے ہی عبداللہ بن سلام نے یہ جوابات سنے تو پکار اٹھے...... اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ...... میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ﴿بخاری کتاب المناقب 01/561﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دسواں باب

http://t.me/Tehqiqat

......کہ گمانِ نقص جہاں نہیں

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat
Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قارئین محترم! گزشتہ ابواب میں آپ نے حضور ﷺ کے بحرِ علم کی وسعتوں کے حسین مناظر دیکھے۔ان مناظر نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو تسکین عطا کی۔

قرآن کریم کی متعدد آیات مقدسہ اور بخاری و مسلم کی احادیث مبارکہ کے در حضور ﷺ کے علم پاک کی وسعت و عظمت خوب واضح ہوئی۔شکوک وشبہات کے بادل چھٹ گئے اور ماننے والوں کو اطمینان نصیب ہوا تاہم آپ کے ذوق تحقیق کی تسکین کے لئے خاص شکوک وشبہات کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش خدمت ہے۔

یوں تو شکوکت وشبہات کی ایک طویل فہرست میرے سامنے موجود ہے مگر ان میں سے بیشتر انتہائی غیر علمی اور غیر سنجیدہ ہونے کے باعث لائق توجہ نہیں۔ان کے بارے میں گفتگو کرنا تضیع اوقات کے سوا کچھ نہیں۔اپنا قیمتی وقت دینی خدمت کے تعمیری کاموں میں ہی استعمال کرنا بہتر ہے۔

اختصاراً صرف تین عنوانات کا انتخاب کیا گیا ہے۔دلائل کا وزن محسوس کرنے والے احباب اس گفتگو سے دیگر شکوک وشبہات کی حقیقت بھی خوب جان لیں گے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

- 1 -

کیا بروزِ قیامت حضور ﷺ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے؟

چند احادیثِ مبارکہ ملاحظہ ہوں:

172- حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

اِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَاءْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ ...... فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ۔ ﴿بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض 02/974﴾

"میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں۔ جو میرے پاس سے گزرے گا، وہ پئے گا اور جو پی لے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے سامنے سے کچھ ایسے لوگ گزریں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا ...... (آپ ﷺ فرمائیں گے) یہ تو میرے ہیں۔ تو کہا جائے گا: آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین نکالا...... فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ ...... تو میں کہوں گا: دُور دُور جس نے میرے بعد دین تبدیل کیا"

173- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِيْ الْحَوْضَ حَتّٰى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ

﴿بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض 02/974﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

"حوض کوثر پر میرے سامنے سے کچھ لوگ گزریں گے یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا۔ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ پس کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین ایجاد کیا"

174- حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

......اَنَا عَلٰی حَوْضِیْ اَنْتَظِرُ مَنْ یَّرِدُ عَلَیَّ فَیُوْخَذُ بِنَاسٍ مِّنْ دُوْنِیْ فَاَقُوْلُ اُمَّتِیْ فَیُقَالُ لَا تَدْرِیْ مَشَوْا عَلَی الْقَهْقَرٰی......

﴿بخاری کتاب الفتن باب واتقوا فتنۃً 1045/02﴾

"میں اپنے حوض پر انتظار کروں گا کہ میرے پاس کون آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میرے سامنے سے پکڑ لیا جائے گا تو میں کہوں گا: میرے اُمتی ...... چنانچہ کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ یہ اُلٹے پاؤں پھر گئے تھے یعنی مُرتد ہو گئے تھے"

175- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اور میرے اصحاب میں کئی لوگ دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے جائیں گے تو میں کہوں گا: اے رب! یہ تو میرے صحابی ہیں...... کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام ایجاد کیے ﴿ترمذی ابواب صفۃ القیامۃ باب ماجاء فی شان الحشر 65/2﴾

176- مُسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑے جائیں گے۔ میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے پیروکار ہیں اور میری اُمت سے ہیں۔ تو کہا جائے گا...... اَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ وَاللّٰهِ مَا بَرِحُوْا بَعْدَكَ یَرْجِعُوْنَ عَلٰی اَعْقَابِهِمْ ...... کیا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیا؟ بخدا آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گئے۔

﴿مسلم کتاب الفضائل باب اثبات حوض نبینا 249/02﴾

ان احادیث مبارکہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو بروزِ قیامت بھی لوگوں

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کے ایمان، منافقت، کفر و ارتداد کا علم نہیں ہوگا اسی لئے آپ ﷺ کچھ لوگوں کے لیے اصحابی، اصحابی...... میرے ساتھی، میرے ساتھی فرمائیں گے اور کہا جائے گا...... اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ...... آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے۔

قرآن و حدیث کا وسیع اور مربوط مطالعہ رکھنے والوں پر تو واضح ہے کہ ان احادیث سے حضور ﷺ کی بے خبری پر استدلال کرنا درست نہیں مگر محدود مطالعہ کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے والے افراد اس استدلال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ان احادیث کے بارے میں تفصیلی گفتگو پیش خدمت ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جن احادیث مبارکہ سے حضور ﷺ کو بے خبر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی احادیثِ مبارکہ سے حضور ﷺ کا علمِ پاک ثابت ہو رہا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے:

(1) یہ واقعہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا مگر حضور ﷺ نے ہزاروں برس پہلے اس کی تفصیل بیان فرمادی۔ اس سے آپ ﷺ کے علم پاک کی وسعت واضح ہوتی ہے۔

(2) فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِّنْ دُوْنِيْ ...... کچھ لوگوں کو میرے سامنے سے پکڑ لیا جائے گا...... وَيُؤْخَذُ مِنْ اَصْحَابِيْ رِجَالٌ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ...... اور میرے اصحاب میں سے کئی لوگ دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے جائیں گے۔

احادیث مبارکہ کے یہ جملے پکار پکار کر اعلان کرتے ہیں کہ اہلِ محشر پر ان لوگوں کا مجرم ہونا خوب واضح ہوگا۔ پھر حضور ﷺ کو ان کے بارے میں بے خبر اور کسی غلط فہمی میں مبتلا بتانا کتنی عجیب بات ہے۔

(3) حضور ﷺ اور ان کے درمیان پردہ حائل ہونے اور ان کو آپ ﷺ سے دور کر دینے سے ہر کسی پر واضح ہوگا کہ یہ غلامانِ مصطفیٰ ﷺ کی نورانی جماعت نہیں بلکہ یہ نافرمان مجرموں کا ٹولہ ہے۔ پھر حضور ﷺ کو ان کے حال سے بے خبر بتانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

(4) حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دور کر دیئے جانے والے منافق و مرتد ہوں گے اور یار لوگوں کو اصرار ہے کہ آپ ﷺ ان منافقوں اور مرتدوں کے حال سے بے خبر ہوں گے۔ آپ انصاف فرمائیں، کس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہزاروں برس پہلے خبر دینے والے سوہنے سچے نبی ﷺ کا یا بے خبر بتانے والوں کا؟

(5) مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ ہوں......اَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ ......کیا آپ جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟

علم سے مس رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ ہمزہ استفہام انکاری (اَ) جملہ منفیہ پر داخل ہو تو یہ نفی کی نفی کر کے اثبات میں تبدیل کر دیتا ہے جیسے ماشعرت سے علم کی نفی ہوتی ہے تو یہاں استفہام انکاری نے نفی کی نفی کر کے علم کو ثابت کر دیا......اَمَا شَعَرْتَ ......کا مطلب ہوا، کیا آپ نہیں جانتے یعنی آپ جانتے ہیں۔

قرآن پاک سے ہمزہ استفہامِ انکاری کی مثالیں ملاحظہ ہوں:

☆ 1- اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝ ﴿الضحٰی:06﴾

"کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی" (یعنی اس نے تمہیں یتیم پایا اور جگہ دی)

☆ 2- اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ ﴿الم نشرح:01﴾

"کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا" (یعنی ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کیا)

☆ 3- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ ﴿الفیل:01﴾

"کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا" (یعنی تم نے دیکھا)

ان آیاتِ مقدسہ میں ہمزہ استفہام انکاری سے انکار ہاں میں تبدیل ہو گیا۔ چونکہ ان احادیث مبارکہ میں ایک ہی واقعہ مذکور ہے صرف روایت میں تعدد ہے اس لئے جہاں یہ ہمزہ موجود نہیں وہاں بھی اسے محذوف مانتے ہوئے معنی میں ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان صحیح احادیث میں تضاد اور تعارض لازم آئے گا جو یقیناً خلافِ واقعہ ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ہمزہ محذوف کی وضاحت کے لیے بخاری و مسلم کی یہ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

177- حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی ...... بَشَّرَ النَّبِیُّ ﷺ خَدِیْجَۃَ ...... کے الفاظ والی حدیث پاک۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب تزویج النبی ﷺ خدیجہ 1/539﴾

178- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ...... فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ تَدْرُوْنَ مَاھٰذَا ...... کے الفاظ والی حدیث پاک۔ ﴿مسلم کتاب الجنۃ باب جھنم 381/02﴾

تو گویا ...... اَمَا شَعَرْتَ ...... والی حدیث پاک سے خوب واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ کو بروز قیامت ان دور کیے جانے والے لوگوں کا منافق و مرتد ہونا خوب معلوم ہوگا۔

الحمد للہ! جن احادیث سے حضور ﷺ کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، انہی احادیث سے آپ ﷺ کی عظمت و فضیلتِ علمی ثابت ہو گئی ...... وما توفیقی الا باللہ۔

کیا مجرم قیامت کے دن بھی نہیں پہچانے جائیں گے؟

☆ 4- یُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِیْمٰھُمْ ...... ○ ﴿سورۃ رحمٰن:41﴾

"مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے"

☆ 5- یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوْہٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْہٌ ...... ○ ﴿سورۃ آل عمران:106﴾

"جس دن کچھ منہ سفید ہوں گے اور کچھ منہ سیاہ"

☆ 6- وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَۃٌ ○ ضَاحِکَۃٌ مُّسْتَبْشِرَۃٌ ○ وَّ وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَۃٌ ○ تَرْھَقُھَا قَتَرَۃٌ ...... ○ ﴿سورۃ عبس:38 تا 41﴾

"کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ہنستے خوشیاں مناتے اور کتنے مونہوں پر اس دن گرد پڑی ہو گی ان پر سیاہی چڑھ رہی ہو گی"

☆ 7- وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَۃٌ ○ وَ وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ بَاسِرَۃٌ ...... ○

﴿سورۃ القیامۃ:22، 24﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

"کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے"

☆ 8- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا...... ○

﴿سورۃ طٰہٰ:102﴾

"جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں"

مومن اور مجرم جدا جدا:

☆ 9- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ○

﴿سورۃ الزلزال:06﴾

"اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر"

☆ 10- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ○ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ

﴿العادیات:09،10﴾

"تو کیا نہیں جانتا ہے جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے" (اس طرح کہ دل کا ایمان، کفر، نفاق، حضور ﷺ سے محبت یا عداوت ہر قلبی کیفیت چہروں پر ظاہر ہو گی)۔

☆ "کچھ لوگوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں"

﴿الانشقاق مفہوم آیات 07،10﴾

حاصلِ کلام:

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بروزِ قیامت مومنوں اور مجرموں کا حال یکساں نہیں ہو گا۔ مومن خوش و خرم اور تروتازہ ہوں گے جبکہ مجرم ملول و رنجیدہ اور گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ ایسی واضح صورت حال کے باوجود حضور ﷺ کو مجرموں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا بتانا غلط ہونے کے علاوہ عجیب بھی ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

منافقوں اور مرتدوں کو اصحابی کہنے کا سبب:

اب رہا یہ سوال کہ جب حضور ﷺ بروزِ محشر ان مرتدوں کو جانتے پہچانتے ہوں گے تو انہیں اصحابی کہنے کا باعث کیا ہوگا؟

علامہ زُرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہات بیان کرتے ہوئے علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ان کو اصحابی کہہ کر ندا کرنا ان میں زیادہ حسرت اور عذاب پیدا کرنے کے لئے ہوگا کیونکہ جب آپ ﷺ ان کو اصحابی کہہ کر پکاریں گے تو ان کو نجات کی اُمید ہو جائے گی اور جب...... سُحْقًا سُحْقًا ...... دوری ہو، دوری ہو فرمائیں گے تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور امید بندھ کر ٹوٹ جانا زیادہ حسرت اور تکلیف کا باعث ہوگا اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ اِن لوگوں نے دین بدل لیا تھا، یہ بھی ان کے عذاب میں زیادتی کا سبب ہوگا۔ ﴿شرح موطا ج 01 ص 60﴾

نجات کی امید قائم ہونے اور پھر ٹوٹنے سے منافقین و مرتدین کا حسرت و یاس میں مبتلا ہونا دراصل ان کے اسی طرزِ عمل کا نتیجہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنایا تھا۔ انہوں نے محض زبان سے تو اسلام کا اقرار کیا تھا مگر اپنے دلوں سے تصدیق نہیں کی تھی۔ قرآن کریم نے ان کے اس راز سے یوں پردہ اُٹھایا:

☆ 11- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّاؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْاِیْمَانُ فِیْ قُلُوْبِكُمْ...... ۝ ﴿سورۃ الحجرات:14﴾

"گنوار بولے ہم ایمان لائے تم فرماؤ تم ایمان نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا"

چونکہ وہ لوگ دنیا میں دھوکے اور استہزاء سے کام لیتے تھے اس لئے بروزِ قیامت ان کو اپنے استہزاء کا بدلہ (جزا) دیکھنا پڑے گا۔

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے استہزاء کا ذکر بھی موجود ہے اور اس استہزاء کی جزا بھی مذکور ہے۔ ملاحظہ فرمایئے منافقین کا استہزاء (مذاق اُڑانا):

☆ 12- وَ اِذَا لَقُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰی شَیٰطِیْنِهِمْ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○ ﴿سورۃ البقرہ:14﴾

''اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یونہی ہنسی کرتے ہیں''

منافقین کے استہزاء (مذاق اُڑانے) کی سزا:

☆ 13- اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ یَمُدُّهُمْ فِیْ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ○

﴿سورۃ البقرہ:15﴾

''اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں''

اس سزا کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

☆ 14- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّاۤ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِیْ ظُلُمٰتٍ لَّا یُبْصِرُوْنَ ○ ﴿سورۃ البقرہ:17﴾

''ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا''

ان آیات سے بالوضاحت معلوم ہوا کہ:

جس طرح وہ محض دکھاوے کے طور پر مسلمان تھے حقیقت میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اسی طرح ان کو دنیا کا ظاہری فائدہ تو حاصل ہوا کہ ان کو اسلامی معاشرتی حقوق حاصل رہے مگر آخرت کی کامیابی کا حقیقی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ان کے دنیاوی ظاہر کے مطابق

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ ان کو اصحابی کہنے کے باوجود انہیں دور کر کے واضح فرمادیں گے کہ تم دنیا میں حقیقی مسلمان نہ تھے اس لیے آخرت میں تم میرے حقیقی غلاموں کی مثل نہیں ہو لہٰذا دور ہو جاؤ۔

منافقین کو اصحابی کہنے کی مثالیں:

ذیل میں دو احادیث پیش کی جاتی ہیں جن میں حضور ﷺ نے منافقوں کے نفاق سے باخبر ہونے کے باوجود ان کے ظاہر کی رعایت کرتے ہوئے انہیں اصحابی فرمایا۔

179- حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ مہاجرین میں سے ایک شخص نے کسی انصاری کو ٹھوکر ماری تو انصاری نے آواز دی کہ انصار کی مدد کرو اور مہاجر نے بھی آواز دی کہ مہاجرین کی مدد کرو۔ جب رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا: یہ زمانہ جاہلیت کی یاد کس لئے تازہ کی جارہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ (ﷺ)! مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو ٹھوکر ماردی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چھوڑو یہ بُری بات ہے۔ عبداللہ بن ابیّ نے یہ سُنا تو کہا: کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ بخدا اگر مدینہ لوٹ کر گئے تو سب سے زیادہ عزت والا شخص سب سے زیادہ ذلت والے شخص کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔...... فَبَلَغَ النَّبِیَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِیْ اَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ دَعْهُ لَا یَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ اَصْحَابَهٗ...... جب یہ بات نبی کریم ﷺ کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اُڑاتا ہوں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کرو۔ لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگے گا کہ محمد ﷺ تو اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں۔

﴿بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ منافقون آیت نمبر 08۔02/728﴾

180- حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور ﷺ حنین سے واپسی پر جعرانہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

میں تھے، ایک شخص آیا اور صورت حال یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور آپ ﷺ اس سے مٹھی بھر بھر کر لوگوں کو دے رہے تھے تو اس شخص نے کہا: اے محمد (ﷺ)! انصاف کیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں عذاب ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا اور میں انصاف سے کام نہ لیتا تو نا کام و نامراد ہو جاتا۔ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ص دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْتُلَ هٰذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يَّتَحَدَّثَ النَّاسُ اَنِّيْ اَقْتُلُ اَصْحَابِيْ اِنَّ هٰذَا وَ اَصْحَابَهٗ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: یارسول اللہ (ﷺ)! مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: معاذ اللہ! کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں۔ یہ شخص اور اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلقوں (گلوں) سے نیچے نہیں اُترتا اور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ ﴿مسلم کتاب الزکوٰۃ باب اعطاء المؤلفۃ 340/1﴾

ایک سوال:

کیا یہاں بھی شبہ وارد کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ان گستاخانِ رسول کا منافق ہونا جانتے تھے مگر حضور ﷺ نے بے خبری اور غلط فہمی کے سبب ان کے لیے اصحابی کا لفظ استعمال فرمایا؟

حسرت و یاس میں مبتلا کرنے کے بارے میں احادیث:

181- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ منافقین کو بھی ایک نور دیا جائے گا اور ان کو جب اس نور کی ضرورت ہوگی، یہ نور بجھا دیا جائے گا۔ (اس حدیث کو حافظ ابنِ کثیر نے بھی سورۃ حدید کی تفسیر میں نقل کیا ہے)۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

﴿مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة 01/107۔ تفسیر ابنِ کثیر زیر آیت 13,12 سورۃ حدید﴾

182- حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی کافر قید میں داخل ہوتا ہے تو اس سے حضور نبی کریم ﷺ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور وہ صحیح جواب نہیں دیتا تو جنت کا دروازہ کھول کر اُسے کہا جاتا ہے:

اُن اُنْظُرْ اِلٰی مَنْزِلِكَ وَاِلٰی مَا اَعَدَّاللّٰهُ لَكَ لَوْ كُنْتَ اَطَعْتَهٗ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَّ ثُبُوْرًا۔

''اپنی اس منزل اور ان نعمتوں کی طرف دیکھ جو حضور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کی صورت میں تیرے لیے تیار کی گئیں تھیں تو اس کی حسرت اور مایوسی بڑھ جاتی ہے''

﴿مستدرک حاکم ج 01 ص 489 دار الفکر بیروت﴾

دوسرا سوال:

کیا یہاں شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے حال سے بے خبر ہو گا اس لیے غلط فہمی کے باعث انہیں بھی نور عطا کر دیا جائے گا۔ بعد میں معلوم ہونے پر ان سے نور چھین لیا جائے گا؟ (معاذ اللہ)

183- حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوئیں سونگھ لیں گے اور اس کے محلات اور جنتیوں کے لئے جو نعمتیں تیار کی گئیں ہیں، وہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی کہ ان کو جنت سے ہٹا لو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے...... فَيَرْجِعُوْنَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَ الْاَ وَّلُوْنَ بِمِثْلِهَا فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَوْ اَدْخَلْتَنَا النَّارَ قَبْلَ اَنْ تُرِيَنَا مَا اَرَيْتَنَا مِنْ ثَوَابِكَ وَ مَا

https://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اَعْدَدْتُّ فِيهَا لِاَوْلِيَاءِكَ كَانَ اَهْوَنَ عَلَيْنَا......پس وہ اتنی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی حسرت سے نہیں لوٹا تھا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! اگر تو ہمیں جنت دکھانے اور اپنا ثواب دکھانے اور تو نے جو نعمتیں اپنے دوستوں کے لیے تیار کی ہیں، دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا...... اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا۔ تم جب تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو انتہائی تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے تھے۔ جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال ہوتا تھا، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ تم نے لوگوں کی خاطر (برے کام) ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے۔ آج میں تمہیں ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ ﴿مجمع الزوائد ج10 ص220 دار الکتاب العربی بیروت﴾

تیسرا سوال:

کیا اللہ تعالیٰ اُن کے حال سے بے خبر ہوگا اس لیے غلط فہمی کے باعث انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا اور بعد میں معلوم ہونے پر انہیں واپس بلایا جائیگا؟ (معاذ اللہ)

فیصلہ کن حدیث پاک:

اب آخر میں بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس سے شکوک و شبہات کے تمام بادل چھٹ جائیں گے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمایئے:

184- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اَنَا نَائِمٌ فَاِذَا زُمْرَةٌ حَتّٰى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ اَيْنَ

http://t.me/Alahqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

فَقَالَ اِلَی النَّارِ وَ اللّٰہِ قُلْتُ وَ مَا شَانُھُمْ قَالَ اِنَّھُمْ ارْتَدُّوْا بَعْدَکَ عَلٰی اَدْبَارِھِمِ الْقَھْقَرٰی ...... اس دوران کہ میں خواب میں تھا، اچانک ایک جماعت گزری حتّٰی کہ میں نے ان کو پہچان لیا تو ایک شخص نے میرے اور ان کے درمیان نکل کر کہا: آؤ۔ میں نے کہا: کہاں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یہ آپ ﷺ کے بعد اُلٹے پاؤں پھر کر مرتد ہو گئے۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض 975/02﴾

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کی نگاہوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیئے اور وقت کی مسافتیں سمیٹ کر آپ ﷺ کو قیامت کے دن رونما ہونے والے واقعہ کا مشاہدہ کرا دیا۔

آپ بتایئے، بے خبری اور غلط فہمی کہاں رہی۔

الحمدللہ! دلائل و براہین کی روشنی میں خوب واضح ہوا کہ حضور ﷺ بروز قیامت لوگوں کے احوال و مقامات سے بخوبی آگاہ ہوں گے اور آپ ﷺ کا کچھ لوگوں کو اصحابی اصحابی کہنا بے خبری اور غلط فہمی کے باعث نہیں ہوگا بلکہ انہیں زیادہ حسرت و یاس اور شرمندگی میں مبتلا کرنے کے لئے ہوگا۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کا کلام بے شمار حکمتوں کا جامع ہوتا ہے۔ یہ حکمتیں سمجھنے کے لئے وسیع علم کے علاوہ خوش اعتقادی اور صدق و خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ان حکمتوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہو، اسے تنقید و اعتراض کے ذریعے اپنے ایمان و آخرت کا نقصان کرنے کی بجائے علماءِ راسخین اور اولیاءِ کاملین کے دامن سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایمان و عمل کا گلشن سرسبز و شاداب رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کے دامن کرم سے ہر دم وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

- 2 -

کیا حضور ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا علم نہ تھا؟

05ھ میں غزوہ بنی مُصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ نے مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت اُمّ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ضرورت کیلئے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کا ہار گم ہو گیا۔ آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلہ کوچ کرنے لگا۔ آپ کا محمل اُونٹ پر کس دیا گیا۔ چونکہ آپ بھاری بدن کی نہ تھی اس لئے آپ کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہوا اور قافلہ چل دیا۔ ادھر آپ آ کر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اور خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور یہاں واپس آئے گا۔ اسی دوران حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جو قافلہ کے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کے کام پر تھے، آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی بلند آواز میں "اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ" پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اُن سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے آپ کو اپنے اُونٹ پر سوار کر لیا اور خود مہار پکڑے لشکر میں پہنچ گئے، منافقین نے فاسد اوہام پھیلائے اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ پر تہمت لگا کر بدزبانی کرتے رہے۔ اپنی سادہ لوحی کے باعث چند مسلمان بھی ان کے بہکاوے اور فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی نازیبا کلمہ ادا ہو گیا۔

حضرت اُمّ المومنین رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں جس کے باعث انہیں اپنے بارے میں اڑنے والی افواہوں کا علم نہ ہو سکا۔

حضور ﷺ نے قانون وانصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے خوب تحقیق وتفتیش کی تا کہ لوگوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور برأت خوب واضح ہو جائے۔ بعد ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں سورۂ نور کی آیات نازل ہوئیں اور بدخواہوں کا منہ بند ہو گیا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

یہ ہے اس واقعہ کی تفصیل جس پر کہا گیا کہ ایک ماہ تک حضور ﷺ کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہ تھی کہ اگر آپ ﷺ کو علم ہوتا تو آپ پریشان کیوں ہوتے اور تحقیق و تفتیش کیوں کرتے؟

حضور ﷺ کے علم پاک کے بارے میں اتنے اعتراض پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ کہنے والوں نے بہت سی نازیبا و نامناسب باتیں حضور ﷺ کے بارے میں کہہ ڈالیں۔

خدا کی قسم! میرا دکھ اُس وقت بہت بڑھ گیا جب میں نے اہلحدیث عالم وحید الزمان کی تیسیر الباری شرح بخاری میں ان کی طرف سے یہ تشریح دیکھی کہ حضور ﷺ ایک مہینے تک تردد میں رہے۔ بلکہ نہ جانے کس حوصلے کے ساتھ یہ بھی لکھ ڈالا کہ آپ ﷺ کے دل میں بھی وہم آ گیا۔ ﴿تیسیر الباری شرح بخاری ج 5 پارہ 16 ص 379 مطبوعہ تاج کمپنی لمیٹڈ﴾

یہ بظاہر چند الفاظ ہیں ایک مکمل فکر کے غماز اور ایک رویّے کے عکاس۔

لوگ حضور ﷺ کو بے خبر ثابت کرنے کے لئے یہاں تک بھی جا سکتے ہیں۔ الامان والحفیظ! حیرت کی بات ہے کہ ایک عام مومن کو تو دوسرے مومن کے لئے نیک گمان کا حکم ہے مگر موصوف نے بدگمانی کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کر دی اور بدگمانی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ یعنی جو گمان ایک عام مسلمان کے لئے بھی شرعاً جائز نہیں وہ گمان، بغیر ثبوت لگائے گئے الزامات کے بارے میں اللہ کے معصوم نبی ﷺ کے لئے مان لیا۔ نہ روح کانپی اور نہ دل پسیجا۔

مجھے اپنی تحریر اور لہجے کی سنجیدگی و شائستگی کو برقرار رکھنا ہے، اس لئے مزید گفتگو کی بجائے ان کلمات کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ آؤ مل کر دعا کریں، اے اللہ العالمین! اپنے محبوب ﷺ اور اپنے نیک بندوں کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں خوب راسخ فرما دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا، آمین۔

آیئے جائزہ لیتے ہیں، کیا واقعی حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں بے خبر و متذبذب تھے یا آپ ﷺ کو ان کی پاک دامنی کا پورا پورا یقین تھا؟

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

1- بخاری کی حدیثِ پاک سے علم و یقین کا روشن بیان:

جھوٹی تہمت کے بارے میں حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کا علم و یقین:

185- جب حضور ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے تحقیق کی تو انہوں نے عرض کیا: اَهْلُكَ وَ لَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا...... یارسول اللہ (ﷺ)! آپ کی اہلیہ اور ہم تو اسے نیک ہی جانتے ہیں۔

﴿بخاری کتاب الشہادات باب تعدیل النساء ج01 ص363،

کتاب المغازی باب حدیث الافک 593/02﴾

بریرہ کنیز رضی اللہ عنہا کا علم و یقین:

حضور ﷺ نے بریرہ کنیز کو بلایا اور فرمایا: اے بریرہ! کیا تو نے عائشہ میں کوئی شک والی بات دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا: وَالَّذِیْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَارَاَیْتُ عَلَیْهَا اَمْرًا قسم اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات اِن کے اندر عیب والی نہیں دیکھی۔ ﴿بخاری کتاب الشھادات باب تعدیل النساء 363/1﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا علم و یقین:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا: امی جان! لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِىْ عَلَيْكِ فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا...... انہوں نے کہا: اے بیٹی! ایسی باتوں کا خیال نہ کرو۔ اللہ کی قسم! اکثر ایسا ہوتا ہی ہے کہ کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوں اور اس کا خاوند اس کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہو تو سوکنیں عموماً ایسا فریب کر گزرتی ہیں۔

﴿بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافک 593/02﴾

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا علم و یقین:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ میرے معاملے میں

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ اے زینب (رضی اللہ عنہا)! تم اسے کیسا جانتی ہو؟ وہ عرض گزار ہوئیں...... یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اَحْمِیْ سَمْعِیْ وَ بَصَرِیْ مَا عَلِمْتُ اِلَّا خَیْرًا ...... یارسول اللہ ﷺ! میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بچاتی ہوں، میری نظر میں تو ان کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے (بھلائی کے سوا کچھ نہیں)۔

﴿بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافک 593/02﴾

بات تو اس قدر تفصیل سے واضح ہو جاتی ہے مگر اطمینان مزید کے لئے حضور ﷺ کے علم ویقین کا دوٹوک اور واضح بیان بھی پیش خدمت ہے۔

خود حضور ﷺ کا علم ویقین:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں...... فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ مِنْ یَّوْمِہٖ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللّٰہِ بْنِ اُبَیٍّ وَّھُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِیْنَ مَنْ یَّعْذِرُنِیْ مِنْ رَّجُلٍ قَدْ بَلَغَنِیْ عَنْہُ اَذَاہُ فِیْ اَھْلِیْ وَاللّٰہِ مَا عَلِمْتُ عَلٰی اَھْلِیْ اِلَّا خَیْرًا ...... پھر رسول اللہ ﷺ اس دن کھڑے ہو گئے اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر عبداللہ بن ابی کی شکایت فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے مسلمانو! کون ہے جو اس شخص سے میرا بدلہ لے جس نے میری زوجہ کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ خدا کی قسم! میں اپنی بیوی میں نیکی و پاکیزگی ہی جانتا ہوں۔

آپ ﷺ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کا ذکر کرتے ہیں، میں اس کے اندر بھی نیکی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا۔

﴿بخاری کتاب الشہادات باب تعدیل النساء 363/1، کتاب المغازی باب حدیث الافک 593/2، کتاب التفسیر باب قولہ ولولا اذسمعتموہ، کتاب الاعتصام باب قول اللّٰہ تعالیٰ وامرھم شوریٰ بینھم۔ مسلم کتاب التوبہ باب فی حدیث الافک 364/2﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

آپ نے دیگر بیانات کے ساتھ ساتھ خود حضور ﷺ کا قطعی بیان بھی ملاحظہ فرمایا۔ حضور ﷺ نے اپنے علم ویقین کو قسم کے ساتھ مؤکد فرما کر شک کے تمام راستے بند کر دیئے۔ اب اس کے باوجود کوئی شخص حضور ﷺ کو بے خبر بتائے یا آپ ﷺ کی طرف تہمت کی بابت وہم وبدگمانی کی نسبت کرے تو یہی کہا جائے گا کہ اسے آپ ﷺ کی قسم کا بھی اعتبار نہیں اور پھر ایسا شخص اپنے اس رویے کے باعث اس گفتگو میں ہمارا مخاطب ہی نہ رہا کہ احادیث تو ہیں ماننے والوں کے لئے اور جو نہ ماننے کی ٹھان لے، اس کے لئے دُعا کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟

(2) حضور ﷺ کا عبداللہ بن ابی کی شکایت کرنا، یہ فرمانا کہ اس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور مسلمانوں کو اس سے بدلہ لینے کے لئے آمادہ کرنا، ان تینوں باتوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور ﷺ خوب جانتے تھے کہ منافق ابن ابی نے جھوٹی تہمت مشہور کی ہے اور حضرت عائشہ اس الزام سے مکمل طور پر بری ہیں ورنہ بذریعہ قرآن اس کا جھوٹ کھلنے سے پہلے بے خبری کی حالت میں آپ ﷺ ایسا کیوں فرماتے؟

حضور ﷺ کے اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ کی پریشانی اور تکلیف کا سبب بے خبری نہ تھی بلکہ وہ اذیت تھی جو منافق عبداللہ بن ابی نے آپ ﷺ کی نیک، پاک دامن وپرہیزگار زوجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جھوٹی خبر مشہور کر کے آپ ﷺ کو پہنچائی تھی۔

اس ضمن میں آپ ﷺ کا تحقیق کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قربت و اختلاط کم کر دینا یا انہیں توبہ کیلئے کہنا بھی بے خبری کی دلیل نہیں بلکہ آپ ﷺ نے قانون و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ اقدامات فرمائے جو کسی الزام کے انکار یا ثبوت کیلئے لازم ہوتے ہیں تا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت وپاکدامنی ہر شخص کے لئے زیادہ معتبر ہو جائے۔ اگر آپ ﷺ یہ تمام اقدامات کئے بغیر فرما دیتے کہ میری زوجہ اس الزام سے بری ہیں تو افواہ سازوں کو یہ کہنے کا موقع ہاتھ آ جاتا کہ قانون صرف دوسروں کے لئے ہے، اپنے گھر کی بات آئی تو رسول خدا ﷺ نے کوئی تحقیق وتفتیش نہیں کی۔ رہی

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

پریشانی کی بات، وہ تو تہمت کے جھوٹ ہونے کا علم ہونے کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس واقعہ میں تو زیادہ پریشانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض مسلمان بھی منافقوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور جب حضرت اسامہ، حضرت بریرہ اور حضرت زینب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت و پاکدامنی کا علم و یقین تھا تو حضور ﷺ کو کیسے شک و شبہ اور وہم ہو سکتا تھا؟

2- مزید احادیث مبارکہ:

186-......عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَابَغَتْ اِمْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ...... تفسیر ابن عباس ص 605 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نبی کی زوجہ نے کبھی بدکاری نہیں کی۔

﴿اس حدیث کو علامہ آلوسی نے روح المعانی زیر آیت نمبر 16 سورۃ النور 9/121، علامہ جلال الدین سیوطی نے در منثور 6/245 بیروت، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر، علامہ قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن جز 12 ص 199، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اور امام نووی نے شرح مسلم 2/368، روح البیان 6/125 دارالفکر میں نقل کیا ہے﴾

اس مرفوع حدیث کی روشنی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ہر نبی کی زوجہ کی پاکدامنی کا تو علم ہو مگر آپ ﷺ اپنی زوجہ کی عفت و پاکیزگی کے بارے میں بے خبر ہوں؟

187- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں کہ ریشمی کپڑے کے اندر تمہیں ایک آدمی نے اٹھایا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ آپ ﷺ کی بیوی ہیں۔ میں نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ تم تھیں۔ پس میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔

﴿بخاری کتاب التعبیر باب کشف المرأۃ فی المنام 02/1038﴾

188- حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا و آخرت میں آپ

https://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ﷺ کی بیوی ہیں۔ ﴿بخاری کتاب المناقب باب فضل عائشه 532/01﴾

جب حضور ﷺ کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی انسان نے نہیں بلکہ خود خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے منتخب فرمایا ہے تو پھر آپ ﷺ ان کی عفت و پاکیزگی کے بارے میں کیسے بے خبر و متذبذب ہو سکتے تھے؟ کیا آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی پختگی پر اعتماد و اعتبار نہ تھا (معاذ اللہ) اور کیا اس بے اعتمادی و بے اعتباری کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرنا بے ادبی و گستاخی نہیں؟

لوگوں کے تین گروہ:

قرآن پاک کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس بہتان کے بارے میں سوچ اور رویّے کے اعتبار سے لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔

پہلا گروہ: ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بہتان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جیسے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور وہ لوگ جنہوں نے زبانی موافقت کی جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مسطح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا بنت جحش۔

قرآن پاک نے فرمایا:

☆ 15- ترجمہ: "بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے" ﴿سورۃ النور: 33﴾

دنیا کا عذاب:

☆ 16- ترجمہ: "اور پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں اَسّی (80) کوڑے لگاؤ اور اُن کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں"

﴿سورۃ النور: 4﴾

(توبہ نہ کرنے کی صورت میں) آخرت کا عذاب:

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

☆ 17- ترجمہ: ''اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے'' ﴿سورۃ النور:25﴾

توبہ کرنے والوں کے لئے معافی کا مژدہ:

☆ 18- ترجمہ: ''مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے'' ﴿سورۃ النور:10﴾

عبداللہ بن ابی تادم مرگ منافقانہ روش پر قائم رہا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا اس لئے دنیاوی عذاب کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی اس کا مقدر رہا۔ اس کے برعکس دیگر حضرات نے سچی توبہ کر لی لہٰذا صرف دنیاوی سزا پائی اور بخشش کے مصداق ہو کر حضور ﷺ کے وفادار و جاں نثار رہے۔

دوسرا گروہ: دوسرے وہ لوگ تھے جو بہتان سن کر خاموش ہو رہے یا تردد و تذبذب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ کو ناپسندیدہ قرار دیا اور تنبیہ فرمائی۔

☆ 26 تا 28- ترجمہ: ''کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے'' ﴿سورۃ النور:12،14،16﴾

تیسرا گروہ: گویا اس الزام کو بہتان جانتے ہوئے اس کے جھوٹ ہونے کا برملا اظہار کرنا ہی روا اور پسندیدہ تھا۔ سو تیسرے وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اس بہتان کی برملا تردید کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت و پاکدامنی کا صریح اعلان کیا۔ رحمتِ الٰہی کے حقدار ان لوگوں کے بیانات احادیث مبارکہ میں دیکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ..........

189- حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں۔ امّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم ﷺ کے جسم پاک کو

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ ﷺ کو بُری عورت سے محفوظ نہ رکھتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تا کہ اس پر کسی کا قدم نہ پڑے تو جو پروردگار آپ ﷺ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ ﷺ کی اہلیہ کو محفوظ نہ فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ ﷺ کو نعلین پاک اتارنے کا حکم دیا تو جو پروردگار آپ ﷺ کے نعلین پاک کی اتنی سی آلودگی گوارا نہ فرمائے، وہ آپ ﷺ کی اہلیہ کی آلودگی کیسے منظور فرماتا۔

﴿روح البیان دارالفکر 06/125 بیروت، مدارک التنزیل ج 321 مصر﴾

قارئین محترم! آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے تین گروہوں کا بیان ملاحظہ فرمایا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ حضور ﷺ کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے؟ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں، کیا حضور ﷺ کو تردد و تذبذب یا وہم میں مبتلا بتا کر آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے عتاب اور تنبیہ کا مصداق قرار دینا درست ہو سکتا ہے؟ جبکہ اسی سورۃ میں اللہ پاک نے فرمایا۔

☆ 29- لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ...... ○ ﴿سورۃ النور: 11﴾

"اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے"

اس لئے حضور ﷺ کے لئے حقیقتاً بہتری پر مبنی اس واقعہ میں آپ ﷺ کے رویے اور اقدامات کو بے خبری یا تردد و تذبذب اور وہم کا سبب قرار دینا کج فہمی اور کوتاہ نظری کے سوا کچھ نہیں۔

الحمدللہ! متعدد آیات مبارکہ اور احادیث مقدسہ کے ذریعے اس واقعہ کے متعلق شکوک و شبہات کے بارے میں تفصیلی وضاحت ہو گئی۔ رہا تسلیم و انکار کا معاملہ، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں...... اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

- 3 -

کیا ہمارے حضور ﷺ کو اپنے انجام و مقام کی خبر نہیں؟

قارئینِ کرام ! معقولیت اور سنجیدگی کے اعتبار سے یہ سوال اس قابل ہی نہیں کہ سنجیدہ، سلیم الفطرت اور خوش عقیدہ افراد اس پر کان دھریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنے احوال اور اپنے اُخروی ٹھکانے سے بے خبر سمجھنا ایسا غیر معقول اور بھیانک نظریہ ہے جسے ایک لحہ کے لئے بھی تسلیم کر لینا اسلام کی بنیاد متزلزل کر دینے کے مترادف ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو نبی ﷺ دوسروں کے انجام و مقام کی یقینی خبریں دے رہا ہو، اُسے اپنے انجام و مقام سے بے خبر بتانا حماقت و جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

یوں تو گذشتہ صفحات کے مندرجات کے بعد مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی مگر اس دور میں بنیادی اعتقادات اور مُسلّمات تک کو متنازعہ و مشکوک بنا کر حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ امت مسلمہ کی اعتقادی و عملی وابستگی کمزور کرنے کیلئے طرح طرح کے اعتراضات تراشنا علمی تحقیق قرار دیا جا رہا ہے، اس لئے اس پر گفتگو کرنا ضروری و مناسب معلوم ہوا۔

دراصل قرآن پاک کی اس آیت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

☆ 30- قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَ لَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

﴿سورۃ احقاف:09﴾

”تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں اور میں (از خود) نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا"

اس آیت کو مشقِ ستم کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ حضور ﷺ کو اپنے اور دوسروں کے انجام و مقام کی کوئی خبر نہیں (معاذ اللہ) جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔

لفظ اَدْرِیْ کی تحقیق:

چونکہ اس شبہ کی بنیاد مَـا اَدْرِیْ پر رکھی گئی ہے اس لئے دیگر دلائل سے پہلے اَدْرِیْ کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔

اَدْرِیْ کا لفظ درایت سے مشتق ہے اور درایت کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی اپنی شہرہ آفاق کتاب مفرادت راغب میں لکھتے ہیں۔

اَلدِّرَايَةُ ...... اَلْمَعْرِفَةُ الْمُدْرِكَةُ بِضَرْبٍ مِّنَ الْحِيَلِ وَالدِّرَايَةُ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿المفردات ص168 مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران﴾

"درایت خاص حیلوں سے جاننے کو کہتے ہیں اور درایت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں ہوتا"

http://t.me/Tehqiqat

شارح قاموس، علامہ زبیدی میں اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اَلدِّرَايَةُ اَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ اَوْ عِلْمَتُهُ بِضَرْبٍ مِّنَ الْحِيْلَةِ وَلِذَا لَا يُطْلَقُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى۔

"درایت علم سے خاص ہے یا حیلہ و قیاس سے کسی چیز کو جاننا درایت کہلاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ پر اس کا طلاق نہیں کیا جاتا" ﴿تاج العروس ج10 ص126 مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر﴾

لفظ درایت کی تحقیق سے واضح ہو گیا کہ درایت اس علم کو کہتے ہیں جو اٹکل، اندازے اور قیاس کے ذریعے حاصل ہو۔ اس علم میں نقص، کجی اور خطا کا امکان ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کے علم پر درایت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام علم کی بنیاد اٹکل اور اندازے کی بجائے وحی پر ہوتی ہے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اس لئے اس آیت میں مَآ اَدْرِیْ کے ذریعے درایت کی نفی کی گئی ہے۔

اس آیت کے سیاق وسباق سے بھی واضح ہے کہ یہاں وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے پختہ اور یقینی علم کی نفی نہیں بلکہ اندازے اور قیاس کی نفی ہے۔

اس سے پچھلی دو آیتیں (آیات نمبر:07،08) ملاحظہ فرمایئے: ان آیات میں کفار کے اس الزام کا تذکرہ وتردید ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد ﷺ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔اس سے اگلی آیت (آیت نمبر 10) میں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنے والے کافروں کو ظالمین کا خطاب دیا گیا ہے۔

لہٰذا زیر گفتگو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اے کافرو، میں جو مومنوں کے لئے آخرت کے بے شمار انعامات کی خوش خبری اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سناتا ہوں تو یہ سب کچھ میں اپنے اندازے اور قیاس سے نہیں بلکہ اس وحی کی بنیاد پر جانتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اسی کے مطابق تمہیں ڈراتا ہوں۔

چونکہ اس آیت میں حضور ﷺ کا روئے سخن کافروں کی طرف ہے اس لئے آپ غور فرمائیں کہ اگر حضور ﷺ ان کے سامنے خود کو اپنے اور دوسروں کے انجام ومقام سے مطلقاً بے خبر بتائیں گے تو کافر آسانی کے ساتھ کہہ دیں گے کہ اگر یہ قرآن آپ کے دعوے کے مطابق رب کا کلام ہوتا تو وہ آپ کو آپ کے اور ہمارے انجام سے کیسے بے خبر رکھتا۔جب آپ خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے تو ہمیں کس بنیاد پر ڈراتے ہیں؟

زمانۂ نزول کی روشنی میں: یہ بھی واضح رہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی کے آخری ایام میں ہجرتِ مدینہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے نازل ہوئی۔اس سے پہلے قرآن پاک کی متعدد سورتیں نازل ہو چکی تھیں جن میں ایمان والوں کے لئے اُخروی کامیابی کی خوش خبری اور کافروں کے لئے ناکامی کی وعید پر مبنی آیتیں موجود تھیں۔ان آیات کی موجودگی میں حضور ﷺ اپنے اور دوسروں کے انجام کے بارے میں کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

سورۃ احقاف سے پہلے نازل ہونے والی تمام سورتیں تو ایک طرف، صرف موجودہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس سے متصل چند مکی سورتوں کا ہی مطالعہ کر لیں تو یہ شبہ پریشان نہیں کرتا۔

یہاں اختصار کے باعث صرف ایک سورۃ سے چند آیات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

☆ 31 تا 36- سورۃ جاثیہ، آیات نمبر :07، 11، 15، 19، 21، 30

☆ 37 تا 42- سورۃ احقاف، آیات نمبر: 12 تا 15، 20، 35-

مزید اطمینان کے لئے سورۃ حٰم السّجدۃ اور سورہ فاطر کا مطالعہ بھی مفید رہے گا۔ ان تمام آیات میں اہل ایمان کے لئے نیک جزا کی خوش خبریاں اور اہل کفر کے لئے سخت سزا کی وعیدیں بیان کی گئیں ہیں۔

جب سورۃ احقاف کی زیر گفتگو آیت سے پہلے ایمان والوں کے لئے اُخروی درجات وانعامات اور کافروں کے لئے شدید عذابات کھول کھول کر بیان کر دیئے گئے تھے تو دریافت طلب امر یہ ہے، کیا حضور ﷺ کو اپنا مومن ہونا بھی معلوم نہ تھا؟ (معاذ اللہ)۔

کتنی ستم ظریفی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب ﷺ کو مومنوں اور کافروں کے درجات ومقامات سے آگاہ کرنے کے لئے قرآن نازل فرمائے اور یہاں تمام آیات واحادیث کو نظر انداز کر کے خود حضور ﷺ ہی کو اپنے درجات ومقامات سے بے خبر بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز سمیت تمام مسلمانوں کو ایسی سوچ اور ایسے رویّے سے محفوظ رکھے، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از کلامِ خدا عزّ وجلّ

ہر لمحہ درجات کی بلندی:

☆ (43) وَلَلْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰی ۝ ﴿الضحیٰ: 04﴾

"اور بے شک تمہارے لئے پچھلی پہلی سے بہتر ہے (اور بے شک ہر آنے والی گھڑی تمہارے لئے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے)"

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم...... خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

☆ (44) ......وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۝ ﴿سورۃ الضحیٰ: 05﴾

"اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے"

مقامِ مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

اب بخاری و مسلم کی چند احادیث پیش کی جاتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین و تقرر اور پوری وضاحت کے ساتھ اپنے درجات و مقامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ اپنے آقا و مولا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و آگہی کا ایمان افروز بیان پڑھیے اور جھوم جھوم جائیے۔

سب کے سردار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم:

190- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا...... اَنَا سَیِّدُ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ...... قیامت کے دن سب سے لوگوں کا سردار ہوں۔

﴿بخاری کتاب الانبیاء، کتاب التفسیر باب ولقد ارسلنا نوحا الی قومه 470/01۔ مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة 111/1﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مقامِ محمود فقط آپ ﷺ کے لئے ہے:

191- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (بروزِ قیامت) لوگ گروہ بنا کر اپنے اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضور! ہماری شفاعت فرمائیے۔ یہاں تک کہ شفاعت کی بات نبی کریم ﷺ تک آ پہنچے گی۔ پس اس روز اللہ تعالیٰ شفاعت کے لئے آپ ﷺ کو مقامِ محمود پر کھڑا کرے گا۔

﴿بخاری کتاب التفسیر قولہ عسیٰ اَنْ یَّبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا 02/686﴾

سب سے پہلے آپ ﷺ ہی سفارش کریں گے:

192- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا...... اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ یَشْفَعُ فِی الْجَنَّةِ وَاَنَا اَکْثَرُ الْاَنْبِیَآءِ تَبَعًا...... میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت میں جانے کے لئے شفاعت (سفارش) کروں گا اور تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ ﴿مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعۃ 01/112﴾

193- حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (جب میں شفاعت کی درخواست کروں گا تو) کہا جائے گا...... اِنْطَلِقْ فَمَنْ کَانَ فِیْ قَلْبِہٖ اَدْنٰی اَدْنٰی مِنْ مِّثْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِیْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ...... جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کمتر ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لاؤ تو میں جاؤں گا تو نکال لاؤں گا۔ ﴿مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعۃ 1/110﴾

سب سے پہلے آپ ﷺ ہی پل صراط سے گزریں گے:

194- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا...... فَاَکُوْنُ اَوَّلَ مَنْ یُّجِیْزُ ...... سب سے پہلے (پل صراط سے) میں گزروں گا۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم 02/973﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی:

195- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کو بلایا اور انہیں ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا کہ صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے جا کر ملو کیونکہ میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا۔

﴿بخاری کتاب التوحید باب وجوہ یومئذ ناظرۃ 02/1108﴾

حضور ﷺ کا اپنے حوض کوثر کو دیکھنا:

196- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا: اے جبرائیل! یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا...... هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِیْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ...... یہ وہی کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے...... اس کی مٹی یا خوشبو (اس میں ایک راوی ہدبہ کو شک ہے) تیز مشک کی ہے۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض 02/974﴾

ہمارے آقا ﷺ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے:

197- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا...... اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ...... قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔

﴿مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة 01/112﴾

198- ''حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آکر اسے کھلواؤں گا۔ جنت کا محافظ کہے گا: آپ ﷺ کون

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ہیں؟ میں کہوں گا: محمد (ﷺ)۔ وہ کہے گا: یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی کے لئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں'' ﴿مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة 1/112﴾

یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں حضور ﷺ کے بہت قریب ہوگا:

199- حضرت سہل بن سعد ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا...... اَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَ قَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَ الْوُسْطٰى...... میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے اور آپ ﷺ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے یہ بات بتائی۔

﴿بخاری کتاب الادب باب فضل من يعول يتيما و 02/882۔ مسلم کتاب الذهد والرقاق باب فضل الاحسان الى اليتيم 02/411﴾

اور حضور ﷺ کا اپنے جنت کے مقام کو دیکھنا:

200- وصال سے پہلے ہر نبی (علیہ السلام) اپنا جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے:

﴿بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ 02/638، کتاب الدعوات باب دعاء النبی ﷺ 02/939۔ مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل عائشه 02/286﴾

201- حضرت سمرہ بن جندب ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ کریم ﷺ نے فرمایا: ایک رات میرے پاس دو فرشتے آئے تو مجھے جگا کر ایسے شہر کی طرف لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہوا تھا...... قَالَا لِيْ هٰذِهٖ جَنَّةُ عَدْنٍ وَّ هٰذَا مَنْزِلُكَ...... دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ ﷺ کا مقام ہے

﴿بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورة براۃ آیت نمبر 102۔ 2/674، کتاب التعبیر باب تعبیرا لرؤیا بعد صلاة الصبح 2/1044﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اس تفصیل سے خوب روشن ہوا کہ حضور ﷺ کو اپنے انجام اور تمام درجات ومقامات آخرت کا علم ومشاہدہ حاصل ہے۔ اس قدر واضح بیان کے بعد بھی آپ ﷺ کو خود اپنے حال سے بے خبر بتانے پر اصرار کیا جائے تو ایسی صورت حال میں دعا کے سوا خیر خواہی کا اور کیا طریقہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلائے اور ہمارے دلوں کو اپنے پیارے محبوب، دانائے غیوب ﷺ کی سچی محبت وعقیدت اور آپ ﷺ کے ادب واحترام کی لذت وحلاوت سے آشنا فرمائے، آمین۔

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

چند اصولی گزارشات

اس باب کے آخر میں قرآن وحدیث کا مطالعہ کرنے والوں کی خدمت میں چند اصولی گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ان گزارشات کو مدنظر رکھا جائے تو شکوک وشبہات کی تسکین اور قرآن وسنت کے منشاء ومراد تک پہنچنا آسان رہے گا۔اُمید ہے قرآن وحدیث میں غور وفکر کی برکتیں حاصل کرنے کے خواہش مندان گزارشات کو بہت مفید پائیں گے۔

1- سوال کرنا لاعلمی اور بے خبری کی دلیل نہیں ہوتا۔کیا فرشتوں سے پوچھنے کے باعث اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال سے غافل وبے خبر قرار دیا جاسکتا ہے؟

2- نبی علیہ السلام کے لیے ہر سوال کا جواب دینا اور ہر بات کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔کسی سوال یا صورت حال پر خاموشی کی کئی وجوہات اور حکمتیں ہوتی ہیں۔تمام وجوہات اور حکمتیں نظر انداز کر کے خاموشی کو فقط لاعلمی اور بے خبری پر محمول کرنا درست نہیں۔

3- اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے،غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں......ان مضامین پرمبنی آیات واحادیث میں علمِ غیب کی مرکزیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کا بیان ہے۔ان آیات واحادیث سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کرتا۔

4- چونکہ قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے حصے کی توضیح وتفسیر کرتا ہے اور احادیثِ مبارکہ کو بھی توضیح وتفسیر کے لئے بنیادی حیثیت حاصل ہے اس لئے کسی مسئلہ میں نتیجہ پر پہنچنے کے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

لئے درست طریقہ یہی ہے کہ زیرِ غور مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی آیات واحادیث کا وسیع اور گہرا مطالعہ کیا جائے۔ اگر ایک نوعیت کی آیات واحادیث کو تو سامنے رکھا جائے مگر دوسری نوعیت کی آیات واحادیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

مثلاً قرآن پاک کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے جیسا کہ اس کتاب کے پہلے باب میں کئی آیات درج کی گئی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی اس عطاء وبخشش کا بیان واضح اور روشن ہے جیسا کہ صرف بخاری ومسلم سے منتخب کر کے احادیث مبارکہ اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔

اس کے برعکس جن آیات واحادیث میں مخلوق سے اس علم کی نفی کا بیان ہے، ان کا مفہوم کرتے وقت عطاءِ علم والی آیات واحادیث کو نظر انداز کرتے ہوئے مطلقاً یہ سمجھنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس علم سے نہیں نوازتا۔ نفی والی آیات واحادیث کا ایسا مفہوم کرنے سے عطاءِ علم والی تمام آیات واحادیث کا انکار لازم آئے گا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کے ارشادات وفرامین میں کوئی باہمی مخالفت اور ٹکراؤ نہیں ہے اس لئے نفی والی آیات واحادیث کا مفہوم کرتے وقت عطاءِ علم والی آیات واحادیث کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں قسم کی آیات واحادیث میں مطابقت وموافقت تلاش کی جائے گی۔ اسی لیے نفی والی آیات واحادیث کا یہ معنی ومفہوم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر (از خود۔ ذاتی طور پر) کوئی غیب نہیں جانتا۔ رہا اُس کے بتانے سے تو یہ علم دوسری آیات واحادیث سے ثابت وواضح ہے۔ معتبر مفسرین قرآن وشارحینِ حدیث کی عبارات سے بھی یہی واضح ہے۔

5. بعض مواقع پر حضور ﷺ نے اپنی ذات سے اس علم کی نفی فرمائی۔ چونکہ اکثر مواقع پر آپ ﷺ نے اس نوعیت کے علم کا اظہار فرمایا ہے اس لئے نفی فرمانے کو آپ ﷺ کے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تواضع اور انکساری پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ آپ ﷺ خطیب الانبیاء ہیں۔ آپ ﷺ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور بروز قیامت آپ ﷺ کو سب سے پہلے سفارش کا اذن اور جنت کا داخلہ عطا ہوگا۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

202- مجھے حضرت یونس علیہ السلام بن متی پر فضیلت نہ دو۔

﴿بخاری کتاب الانبیاء 01/485﴾

اسے آپ ﷺ کے تواضع اور انکساری پر ہی محمول کیا جائے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ آپ ﷺ کو حضرت یونس علیہ السلام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔

6- ہوسکتا ہے ایک وقت میں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو مگر بعد ازاں اس کا علم دے دیا گیا ہو۔ ایک وقت کی لاعلمی کو ہمیشہ کے لئے لاعلمی و بے خبری پر دلیل بنانا درست نہیں۔ پہلے حضور ﷺ کو منافقین کے حال کا علم نہ تھا مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے دلوں میں چھپے ہوئے نفاق سے آگاہ کر دیا۔ ایسی بے شمار مثالیں قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کو غیب کا علم تدریجاً (آہستہ آہستہ) حاصل ہوا ہے۔ جو حضور ﷺ کو غافل و بے خبر بتائے، اسے قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی نصوص سے واضح کرنا ہوگا کہ آپ ﷺ کو تا دم وصال اس شے کے بارے میں علم نہیں دیا گیا۔

7- قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ اصولی حقیقت ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے محبوب بندوں اور ان محبوب بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی عظیم نشانیوں کی اہمیت و عظمت اور ان کی تعظیم و توقیر اجاگر کرنا قرآن و حدیث کا بنیادی مضمون

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اور منشاء و مراد ہے۔ اس لئے آیات و احادیث کا ایسا کوئی مفہوم و مطلب حقیقت پر مبنی قرار نہیں دیا جاسکتا جس سے صریحاً تو درکنار اشارتاً بھی اللہ تعالیٰ، اس کے محبوب بندوں اور ان محبوب بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی نشانیوں کی عظمت و توقیر مجروح ہوتی ہو۔ ایسے مفہوم و مطلب کو اپنی عقل اور اپنے رویّے کا قصور سمجھنا چاہیے۔ سیدھی اور سچی راہ چلنے کا درست اور آسان طریقہ یہ ہے کہ تفہیم و مطالعہ اور غور و فکر کا یہ سفر...... مخلص، سنجیدہ، وسیع النظر، خوفِ الٰہی کے جذبہ اور ذمہ داری کے احساس جذبے سے سرشار، اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی اس کی عظمت کے نشانوں کا ادب و احترام سکھانے والے راسخ الاعتقاد علماءِ حق...... کی رہنمائی میں طے کیا جائے ورنہ اس اصولی ضابطے اور اس ضروری رابطے کی اہمیت نظر انداز کرنے والوں کو مادر پدر آزاد عقل کا سرکش گھوڑا گمراہی کے اندھے کنوئیں میں گرادے یا آگ کے گہرے سمندر میں اتار دے تو کیا تعجب ہے۔

8- ہدایت اللہ پاک کے اختیار میں ہے اس لئے نفس و شیطان کے شر سے بچنے کے لئے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے اس سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔

اے اللہ العالمین! تیری بلند بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب ﷺ کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب ﷺ کی محبت و عقیدت اور ادب و احترام کے لئے مختص فرمالے۔

اے اللہ العالمین! اسی پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

گیارہواں باب

بے ادب بدنصیب

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat
Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ کے علم پاک کی وسعت وعظمت کا انکار کرنے والے

مومن اور منافق جدا جدا

☆ (1) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ...... ﴿آل عمران:179﴾

"اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے"

http://t.me/Tehqiqat

حضور ﷺ کو بے خبر کہنے والے:

204- علامہ علاء الدین اپنی شہرہ آفاق تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ...... بقول سُدی رحمتہ اللہ علیہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصّلوٰۃ وَالسّلام پر پیش کی گئی اور میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا ...... پس یہ خبر جب منافقوں کو پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ محمد ﷺ کو یہ گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان میں سے کوئی ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔

﴿خازن جز اول ص 455 مطبوعہ مصر۔ بیضاوی 1/192 دار الکتب العلمیہ بیروت۔ اسباب النزول الواحدی ص 88 دار الکتب العلمیہ بیروت﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ کے علمِ غیب پر طعن کرنے والے:

205- تفسیر معالم التنزیل جز اول 56۔455 میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت ......(مَا کَانَ اللّٰہُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ...... کے تحت فرماتے ہیں: پس جب یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا: ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو ہونے والا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ (حضرت حذافہ رضی اللہ عنہ کے اپنے نسب کے بارے میں سوال کرنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے توبہ کے کلمات پر مبنی مکمل حدیث پاک اس کتاب میں بیان کی جا چکی ہے)

منافق ہی مذاق اڑاتے ہیں اور منافق ہی اعتراض کرتے ہیں:

☆ (2) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ○ ﴿سورۃ توبہ: 65﴾

"اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول ﷺ سے ہنستے ہو؟"

سورۃ توبہ کی یہ آیت کب اور کیسے نازل ہوئی؟

206- گزشتہ صفحات میں مسلم کتاب الفتن کے حوالہ سے بیان ہو چکا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم روم میں جہاد کرو گے اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا جب یہ خبر عام ہوئی تو غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے تین منافق جو ایک ساتھ تھے، ان میں دو افراد اس خبر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مذاقاً کہنے لگے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آجائیں گے یہ کیسا انہونا اور عجیب خیال ہے (اس لئے کہ ان دنوں روم کی سلطنت بہت طاقتور تھی اور ایسا ہونا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قیاسا متوقع نہ تھا)۔ان میں سے تیسرے شخص نے کوئی بات نہیں کی تاہم وہ اپنے دوساتھیوں کی بات سن کر ہنستا رہا۔(حضور ﷺ ان کی اس گفتگو سے باخبر ہوگئے) آپ ﷺ نے ان تینوں کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے (جب ان افراد نے دیکھا کہ آپ ﷺ تو ہماری آپس کی گفتگو جانتے ہیں اور انکار نہیں کیا جاسکتا) تو کہنے لگے کہ ہم تو یونہی راستہ کاٹنے کے لئے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿تفسیر خازن 3/117۔معالم التنزیل 3/117۔بیضاوی 1/411 بیروت﴾

(2) 205-ابن ابی شیبہ۔ابن جریر۔ابن المنذر۔ابن ابی حاتم،راس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص کی اونٹنی گم ہوگئی۔اس کی تلاش تھی۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔......قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ اَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِيْ كَذَا وَمَا يُدْرِيْهِ بِالْغَيْبِ......اس پر ایک منافق بولا،محمد ﷺ بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے۔محمد ﷺ غیب کیا جانیں؟اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿تفسیر ابن جریر۔تفسیر درِ منثور 03/254 بیروت﴾

208-ابن جریر نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ منافقین نے غزوہ تبوک میں کہا:یہ شخص (حضرت محمد ﷺ) اُمید لگائے ہوئے کہ شام کے محلات اور قلعے فتح کرلے گا ایسا ہونا بہت بعید ہے۔اللہ نے ان کے اس قول سے اپنی نبی ﷺ کو آگاہ کردیا۔حضور ﷺ ان منافقوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم نے ایسا ایسا کہا تھا۔وہ کہنے لگے......اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ......اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ ﴿تفسیر مظہری 04/620﴾

اس رویّے کا انجام کیا ہوا؟

☆ (3) اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ ﴿سورۃ توبہ:66﴾

"بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لئے کہ وہ مجرم تھے"

اس آیت میں ان تینوں منافقوں میں سے ایک شخص یحییٰ بن حمیر یا مخشی بن حمیر اشجعی کی معافی کا ذکر ہے۔ مخشی منافقوں کے ساتھ ہنسنے میں تو شریک تھا لیکن اس نے خود کوئی کلمہ گستاخی کا اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے نفاق سے توبہ کی اور بعد میں یہ جنگِ یمامہ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

باقی دونوں افراد نے چونکہ حضور ﷺ کیلئے گستاخانہ کلمات ادا کئے تھے۔ اس آیت میں ہے کہ ان کو ضرور عذاب ہو کر رہے گا ﴿خازن 3/118۔ معالم التنزیل 3/118﴾

مذکورہ آیات کے نازل ہونے کا سبب ان میں سے کوئی ایک واقعہ ہو یا تمام واقعات، یہ بات بالصراحت معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ کے احکام و فرامین کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کے شخصی اوصاف و کمالات کا اعتراف نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت و ریاضت حتیٰ کہ اسلام کا دعویٰ بھی قبول نہیں۔

حضور ﷺ کے سچے غلاموں کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کے تمام اعمالِ خیر ضائع ہو جاتے ہیں جیسا کہ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت میں صراحتاً مذکورہ ہے۔...... اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ...... ترجمہ: ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو ...... لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ حضور ﷺ کے بارے میں خوب احتیاط رکھے اور کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے صریحاً تو در کنار کنایتاً بھی اہانت و گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو حضور ﷺ کے سچے غلاموں میں شامل رکھے اور آپ ﷺ کی محبت و عقیدت اور ادب و احترام پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

بارہواں باب

باادب..... خوش نصیب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ

http://t.me/tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

http://t.me/Tehqiqat
Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اُمّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ

209- حضرت ابو سلمہ عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں:

اَنَّ عَائِشَۃَ زَوْجَ النَّبِیِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ ﷺ یَا عَائِشُ ھٰذَا جِبْرَئِیْلُ یُقْرِئُکِ السَّلَامَ قُلْتُ وَ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ قَالَتْ وَ ھُوَ یَرٰی مَالَا نَرٰی۔ ﴿بخاری کتاب الادب باب من دعا صاحبہ 2/915﴾

''حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، زوجہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عائشہ (رضی اللہ عنہا)! یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا: ان پر سلام اور اللہ کی رحمت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید بیان کیا کہ حضور ﷺ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے''

210- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک رات حضور ﷺ میرے ہاں قیام فرما تھے۔ آپ ﷺ کچھ دیر تو میری نیند کے خیال سے ٹھہرے رہے۔ پھر آہستہ سے باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ آپ ﷺ بقیع کے قبرستان پہنچے اور وہاں دیر تک کھڑے رہے۔ پھر تین دفعہ ہاتھ اُٹھائے اور واپس لوٹنے لگے۔ میں بھی واپس چل پڑی اور تیز تیز چلتے ہوئے آپ ﷺ کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ کر لیٹ گئی۔ آپ ﷺ نے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا: اے عائشہ! کیا ہوا، تمہارا سانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا: کوئی خاص بات نہیں۔ قَالَتْ مَھْمَا یَکْتُمُ النَّاسُ یَعْلَمُہُ اللّٰہُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے سوچا کہ جب لوگ حضور ﷺ سے کچھ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بتلا دیتا ہے ﴿مسلم کتاب الجنائز فصل فی التسلیم علی اھل القبور 1/313﴾

https://t.me/tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

211- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضور ﷺ تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ بیمار ہوئے تو آپ ﷺ کا سرِ انور میرے زانو پر تھا۔ آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے نگاہیں چھت کی طرف اٹھائیں۔ پھر فرمایا: اے اللہ! رفیق اعلیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا: اب حضور ﷺ ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ مزید فرماتی ہیں کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی جو حضور ﷺ نے زمانہ صحت میں فرمائی تھی اور وہ درست ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا آخری کلام یہی ہے: اے اللہ! رفیق اعلیٰ۔

﴿بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ووفاتہ 2/638، کتاب الدعوات باب دعاء النبی ﷺ 2/939۔ مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل عائشہ 2/286﴾

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیانات کہ...... حضور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ...... جب لوگ حضور ﷺ سے کچھ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے...... حضور ﷺ کی وصال سے پہلے جنت کا اپنا مقام دیکھ لینے والی بات درست ہو رہی ہے...... ان سے آپ کا یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ حضور ﷺ اپنے آخرت کے مقام سے باخبر و آگاہ ہیں اور یہ کہ حضور ﷺ نے پردۂ غیب میں موجود جنت کو بھی دیکھا ہے۔

حضرت اُم المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ:

212- حضرت بی بی سلمہ زوجہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: میں حضرت اُمِ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا: آپ کو کیا چیز رُلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ آپ ﷺ کے سر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میں ابھی قتلِ حسین کے موقع پر موجود تھا۔ ﴿مشکوٰۃ باب مناقب اہلِ بیت۔ ترمذی باب مناقب حسن و حسین﴾

213- مسند احمد میں مزید یہ بھی ہے کہ حضرت اُمِ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بلند آواز سے فرمایا:

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

عراقیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، خدا انہیں قتل کرے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے دغا کی، خدا ان پر لعنت کرے۔ ﴿مسند احمد ج 06 ص﴾

تبصرہ:

(1) حضرت اُمِ سلمہ رضی اللہ عنہا کا خواب کے درمیان حضور ﷺ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر بیداری میں بے اختیار رونا یہ واضح کرتا ہے کہ وہ بھی حضور ﷺ کے علمِ غیب کا عقیدہ رکھتی تھیں۔

(2) حضور ﷺ کا کسی کو خواب میں زیارت وکلام سے مشرف فرمانا حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس لئے کہ شیطان حضور ﷺ کی مثل صورت اختیار نہیں کرسکتا۔

(3) حضور ﷺ اپنے وصال کے بعد بھی لوگوں کے اعمال وافعال اور حالات وواقعات ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ آپ ﷺ کے امتیوں کو یہ بات ہر لحظہ پیشِ نظر رکھنی چاہیے کہ حضور ہمارے پسندیدہ اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ اعمال سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔

214-بزار کی حدیثِ عرضِ اعمال کے نام سے معروف حدیثِ پاک سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور ﷺ کو رنجیدہ کرنے والے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔

(4) حضور ﷺ جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ طویل فاصلے ہمارے لئے رکاوٹ ہیں، حضور ﷺ کی لطافت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

(5) حضور ﷺ جہاں بھی تشریف لے جائیں، روضہ اطہر آپ ﷺ کے وجودِ مسعود سے خالی نہیں ہوتا اس لئے کہ زائرینِ روضہ اطہر ہر وقت آپ ﷺ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے رہتے ہیں اور آپ ﷺ محبت سے لبریز سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

اس کتاب میں بخاری ومسلم کے حوالے سے بیان کردہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور ﷺ نے کوہِ اُحد پر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کو شہداء ارشاد فرمایا تھا

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دوسری میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مقفل دروازے کے زبردستی توڑے جانے کے فتنے کی خبر دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث پاک بیان کر چکے تو ان سے پوچھا گیا: کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (مسلم کتاب الایمان باب رفع الامانة والایمان 1/ 82 کی حدیث پاک میں ہے کہ اس سے مراد ایک شخص ہے جسے قتل کیا جائے گا) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال بھی کیا گیا: کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، وہ اس کو ایسا یقینی اور قطعی طور پر جانتے ہیں جیسے میں دن کے بعد رات آنے کو جانتا ہوں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے علم غیب اور غیبی خبروں کی سچائی کا کیسا پختہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسے یقین میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔

علاوہ ازیں مَا فِي غَدٍ کے باب میں یہودیوں کو جلاوطن کرنے سے متعلق بیان کردہ حدیث پاک سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مثبت اعتقاد واضح ہو جاتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

215- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عثمان! اُمید ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیض پہنائے گا۔ اگر لوگ تم سے اس قمیض کا اُتار چاہیں تو تم ان کی وجہ سے اُسے نہ اتارنا۔ ﴿ترمذی مناقب عثمان ابن عفان ابن ماجہ۔ مشکوٰۃ باب مناقب عثمان ص 562﴾

216- حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: ایک دن ایک باغ میں حضور ﷺ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی باغ میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے جنت کی خوشخبری پائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ آپ ﷺ نے اجازت دیتے ہوئے ان کیلئے فرمایا: وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيبُهُ اَوْ تَكُوْنُ...... انہیں جنت کی بشارت دو اس مصیبت کے ساتھ جو انہیں پہنچے گی۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

﴿بخاری کتاب الادب باب من نکت العود 918/02، کتاب المناقب باب مناقب عمر بن خطاب 522/01، کتاب الفتن باب الفتنة الّتی تموج کموج البحر 02/1051﴾

217- حضرت مُرّہ ابن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا جب کہ آپ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیا اور انہیں بہت قریب بتایا تو ایک چادر پوش گزرا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں اس شخص کی طرف اٹھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کا چہرہ حضور ﷺ کے سامنے کیا اور کہا: کیا یہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

﴿ترمذی مناقب عثمان ابن عفان۔ مشکوٰۃ ص 42، 562۔ ابن ماجہ ......امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن صحیح فرمایا ہے﴾

قربان جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقیدے پر:

218- ابو سہلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے دار (یعنی فتنے کے دن) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس پر صابر ہوں۔

﴿مشکوٰۃ مناقب عثمان ص 562 بحوالہ ترمذی مناقب عثمان ابن عفان﴾

219- ابو سہلہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آہستہ سے کچھ فرمانے لگے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ بدلنے لگا۔

پھر جب دار (فتنہ) والا دن آیا تو ہم نے کہا کہ کیا ہم جنگ نہ کریں؟ فرمایا: نہیں مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ایک عہد لیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس عہد پر قائم رکھے ہوئے ہوں۔ ﴿مشکوٰۃ مناقب عثمان ص 562 بحوالہ بیہقی دلائل النبوۃ﴾

220- حضور ﷺ کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مصیبت کی غیبی خبر سن کر یہ نہ کہا کہ آپ غیب کی بات کیا جانیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ کل کیا ہوگا؟ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی علم غیب پر اپنے محکم یقین کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا...... اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ...... اللہ مددگار ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

﴿بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر بن خطاب 01/522، کتاب الادب باب نکت العود 02/918﴾

221- جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ روزہ سے تھے۔ شہادت سے قبل جمعہ کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ پیارے محبوب ﷺ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان سے فرماتے ہیں: عثمان! جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے انتظار میں ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے خواب کا تذکرہ کیا۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگیں: امیر المومنین! ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا...... میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔ ﴿طبقات ابن سعد 03/53۔ مستدرک حاکم۔ مسند احمد﴾

222- اور ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عثمان! آج جمعہ میرے ساتھ ادا کرنا۔ پھر وہ پائجامہ منگا کر پہنا جو اس سے قبل کبھی نہ پہنا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا ایسا یقین کیوں تھا؟

یوں تو ان احادیث مبارکہ کے مطالعہ کے بعد یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا ایسا یقین کیوں تھا؟ تاہم درج ذیل حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو:

223- حضرت ثمامہ بن حزن قشیری فرماتے ہیں: میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھر کے اوپر سے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے تھے: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور ﷺ ثبیر مکہ پر تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ متحرک ہوا یہاں تک کہ اس کے پتھر نیچے گرنے لگے۔ حضور ﷺ نے پائے اقدس کی ٹھوکر مار کر فرمایا: ثبیر! ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ معاصرین نے کہا: ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اکبر! ان لوگوں نے میرے حق میں گواہی دے دی۔ رب کعبہ کی قسم! میں شہید ہوں۔ تین مرتبہ فرمایا ﴿ترمذی ابواب المناقب مناقب عثمان ابن عفان﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

224- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذو الخویصرہ نامی ایک شخص آیا اور آپ ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اجازت چاہی کہ اس شخص کی گردن اُڑا دیں لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: جانے دو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس گستاخ گروہ کی علامات ارشاد فرماتے ہوئے ان میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا۔ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے تو ان لوگوں کا خروج ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ حدیث خود میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابو طالب نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے اور میں بھی لشکر میں شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے لایا گیا تو اس کے اندر وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو آپ ﷺ نے بیان فرمائی تھیں۔

﴿بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت 01/509﴾

225- حضرت عبداللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے قتال کر چکے تو فرمایا: اس آدمی کی تلاش کرو۔ اسے ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ فرمایا: اس کو پھر جا کر تلاش کرو، بخدا نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے دو یا تین بار کہی۔ حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو ایک کھنڈر میں ڈھونڈ لیا اور اس کی لاش لا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ ﴿مسلم کتاب الزکاۃ 01 باب اعطاء المؤلفۃ 01/343﴾

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گواہی دینے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس آدمی کو تلاش کروانے سے معلوم ہوا کہ وہ حضور ﷺ کے علمِ غیب کے اِثبات کا پختہ عقیدہ رکھتے تھے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) کا عقیدہ:

226- جب ظالم حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو ان کی والدہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ثقیف قبیلے میں ایک جھوٹا ہے اور ایک ہلاک کرنے والا۔ جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا لیکن ہلاک کرنے والا تو میں تجھے ہی خیال کرتی ہوں۔

﴿مسلم کتاب فضائل صحابہ باب ذکر کذاب ثقیف و مبیرھا 312/02﴾

227- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک ہلاک کرنے والا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے، جھوٹا تو مختار بن عبیدہ ہے اور ہلاک کرنے والا حجاج بن یوسف ہے۔

﴿مشکوٰۃ مناقب قریش و ذکر القبائل ص 551 بحوالہ ترمذی ماجآء فی ثقیف﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

https://t.me/Tehqiqat

پچھلے صفحات میں بخاری کتاب الرقاق سے ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ...... فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰنِيْ وَعَرَفَ مَافِيْ نَفْسِيْ...... (تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور جان لیا جو کچھ میرے دل میں تھا) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کا حال بھی جانتے ہیں۔

یہاں ایک اور واقعہ درج کیا جاتا ہے جسے مشکوٰۃ میں ابوداؤد شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔

228- حضرت صالح بن درہم تابعی روایت کرتے ہیں: ہم حج کرنے جا رہے تھے کہ ایک شخص ملا۔ پس اس نے کہا: کیا تمہارے قریب کوئی بستی ہے جسے ابلہ کہا جاتا ہے؟ ہم بولے: ہاں۔ اس نے کہا: تم میں سے کون اس کا ضامن بنتا ہے کہ مسجد عشار میں میرے لئے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

دو چار رکعتیں پڑھے اور کہہ دے کہ یہ نماز ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے (اس نماز کا ثواب حضرت ابوہریرہ کے لئے ہے)؟ میں نے اپنے محبوب، ابوالقاسم ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسجد عشار سے ایسے شہیدوں کا اُٹھائے گا کہ ان کے سوا شہداء بدر کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوگا اور فرمایا کہ یہ مسجد نہر کے قریب ہے۔

﴿ابوداؤد کتاب الفتن باب ذکر البصرہ 02/243۔ مشکوٰۃ باب الملاحم﴾

معلوم ہوا کہ:

(1) حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب عطا فرمایا کہ آپ کو ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات کا علم ہے بلکہ ان واقعات کا محلِ وقوع بھی آپ ﷺ کے سامنے ہے۔

(2) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی آخر زمانہ میں ہونے والے جہاد کے متعلق دی ہوئی غیبی خبر کے بارے میں یقین رکھتے تھے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس سے ان کا حضور ﷺ کے علمِ غیب کے متعلق پختہ عقیدہ واضح ہوتا ہے۔

(3) اگرچہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں مگر جہاں اللہ کے مقبول بندے، اولیاء کاملین موجود ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان حاجیوں سے مسجد عشار میں اسی لئے نماز پڑھنے کے لئے کہا تھا کہ وہ زمانہ آخر کے مجاہدین کے یہاں جمع ہونے کے باعث اس مسجد کو زیادہ متبرک خیال کرتے تھے۔

(4) کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب دوسروں کو بخش دینا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔

(5) کم تر اپنے سے برتر درجے والے کو ایصالِ ثواب کر سکتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے عقیدہ کی مزید وضاحت کے لئے یہ حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو:

229۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ جزیہ کا ایک دینار بلکہ ایک درہم بھی تمہیں نہیں ملے گا؟ لوگوں نے پوچھا کہ آئندہ کی بات آپ کو کس طرح معلوم ہوگئی؟ فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابوہریرہ کی جان ہے، مجھے صادق و مصدق ﷺ نے بتایا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا: اس

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

وقت تم اللہ کا ذِمہ اور رسول خدا ﷺ کا ذمہ توڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کو مضبوط کر دے گا لہٰذا وہ اپنے مال میں سے تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔

﴿بخاری کتاب الجهاد والسّیر باب اثم من عاهد ثم غدر﴾

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ:

(1) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے لئے علم غیب کا عقیدہ رکھتے تھے اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ غیبی خبر بیان فرمائی۔

(2) جب تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس غیبی خبر کی نسبت حضور ﷺ کی طرف نہیں کی تھی، لوگوں نے اس کا سبب معلوم کرنے کیلئے سوال کیا لیکن جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آئندہ کے ان حالات (مافی غد) کے بارے میں یہ خبر حضور ﷺ کی دی ہوئی ہے تو لوگ اُسی وقت مطمئن ہو گئے۔ اس سے وہاں موجود تمام لوگوں کے عقیدے کی وضاحت بھی ہو گئی۔

حضرت اُمِّ ربیّع رضی اللہ عنہا کا عقیدہ:

230- حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بن سراقہ نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کیا اور وہ نوعمر تھے۔ ان کی والدہ (حضرت اُمِّ ربیّع رضی اللہ عنہا) نبی کریم ﷺ کی بارہ گاہ میں حاضر ہوئیں تو عرض کیا: یارسول اللہ (ﷺ)! آپ جانتے ہیں حارثہ سے مجھ کو کیسی محبت تھی۔ پس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اور اگر کسی اور حال میں ہے تو دیکھیے میرا کیا حال ہو گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: افسوس کیا تو دیوانی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں...... وَاِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ...... اور بے شک وہ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔

﴿بخاری کتاب المغازی باب فضل من شهد بدر 02/567، کتاب الرقاق باب صفة الجنة 02/970﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

سبحان اللہ! کیا بات ہے نگاہ مصطفیٰ ﷺ کی کہ زمین پر تشریف رکھتے ہیں مگر جنت بھی آپ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے ہے اسی لئے تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اِنَّ کا تاکیدی اور قطعی لفظ استعمال کرتے ہوئے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے جنتی مقام کی خبر دے دی۔ گویا حضور ﷺ کو اللہ عزوجل نے وہ علم ومشاہدہ عطا فرمایا ہے کہ آپ ﷺ جنت کے ہر درجے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ درجہ پانے والے خوش نصیب جانثار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔

اس حدیث پاک سے حضرت حارثہ کی والدہ حضرت اُم ربیع رضی اللہ عنہا کا عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ وہ حضور ﷺ کے وسیع علم ومشاہدہ کی قائل تھیں ورنہ اس سے سوال پوچھنے کا کیا مطلب جو جانتا ہی نہ ہو۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

231- حضرت مستورد قرشی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت آئے گی تو رومیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا: غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تم یہ کہتے ہو تو ان میں چار خصلتیں ہیں۔ وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ حلیم ہیں اور مصیبت کے وقت سب لوگوں سے جلدی دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مسکینوں اور یتیموں اور کمزوروں کے لئے سب لوگوں سے بہتر ہیں اور پانچویں خصلت سب سے اچھی یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہیں۔

﴿مسلم کتاب الفتن واشراط الساعۃ 02/392﴾

طوالت اگر بار خاطر نہ ہو تو مشہور اہل حدیث عالم قاضی سلمان منصور پوری کا ترجمہ و تبصرہ بھی پڑھتے چلیے، لکھتے ہیں:

صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو مستورد قریشی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کے سامنے یہ بیان کیا کہ آخری زمانہ میں یورپین عیسائیوں کا دنیا میں زور ہو جائے گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور کہا: دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے۔

عمرو بولے: تب تو درست ہے۔ مزید لکھتے ہیں...... ناظرین غور کریں کہ یہ روایت صحابیِ رسول ﷺ نے اس وقت بیان کی کہ جب عساکرِ اسلام جملہ اطراف عالم میں مظفر یا منصور (کامیاب) تھے۔ جب ان کو عراق و شام و مصر، خراسان و ایران و سوڈان کی فتوحات میں کہیں ایک جگہ بھی شکست نہ ہوئی تھی۔ عیسائی، مسلمانوں کے سامنے جملہ ممالک میں پیچھے ہٹ رہے تھے اور عقل و وہم و قیاس سے نزدیک یورپین اقوام کی کثرت و غلبہ کی پیش گوئی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ سکتی تھی۔

دنیائے اسلام کی یہی حالت امام مسلم (م 261ھ) کی زندگی تک موجود تھی مگر صحابی روایت کرتا ہے اور امام الحدیث اسے اپنی کتاب میں ایمان و ایقانِ صحت کے ساتھ درج بھی کر دیتا ہے۔ آج دنیا دیکھ لے کر امریکن (جو اپنی اصل زاد و نہاد کے اعتبار سے یورپین ہیں) برطانیہ، پرتگال، سویڈن، ناروے، سویٹزرلینڈ، سپین، جرمنی وغیرہ کی حالت کیا ہے؟

﴿رحمۃ للعالمین ج 03 ص 172﴾

اسی کو علمِ غیب کہا جاتا ہے کہ آئندہ کے جو حالات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتے ہوں، حضور ﷺ نے صدیوں پہلے ان کا نقشہ کھینچ کر بتا دیا کہ کل کیا ہو گا؟

ہمارا تو اس حدیث پاک کے درج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور ﷺ کا علم غیب اور حضرت مستورد قرشی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا عقیدہ واضح ہو، قاضی صاحب کی عبارت سے حضرت امام مسلم کا علمِ غیب کے بارے میں مثبت عقیدہ بھی واضح ہو گیا۔

حضرت عکاشہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ:

232- بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک روز حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھ پر اُمتیں پیش کی گئیں۔ پس ایک دو نبی گزرنے جن کے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

ساتھ لوگوں کی جماعت تھی۔ کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو اُمتی تھے اور ایک نبی علیہ السلام ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی اُمتی نہ تھا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی۔ میں نے اپنی اُمت کا خیال کیا تو کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم۔ پھر کہا گیا کہ یہ آپ ﷺ کی اُمت ہے اور ان میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

233- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کتاب الرقاق باب یدخل الجنّة...... بغیر حساب 968/02 سے مروی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے)۔ لوگ ادھر ادھر چلے گئے اور آپ ﷺ نے یہ ظاہر نہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ وہ ہم ہیں کیونکہ اگرچہ ہم زمانہ شرک میں پیدا ہوئے لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے ہیں یا پھر ہماری اولاد ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔

234- حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یارسول اللہ ﷺ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ جماعت ان لوگوں کی ہے جو نہ تو بدشگونی لیں، نہ منتر کریں، نہ داغ لگوائیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کریں...... پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ پھر ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے: کیا میں بھی ان میں ہوں؟ فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ (مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کردے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: عکاشہ! تم انہی لوگوں میں سے ہو۔

﴿بخاری کتاب الطب باب من لم یرق 856/02۔ مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول...... 117/01﴾

سبحان اللہ! یہ حدیث پاک تو حضور ﷺ کے علم و مشاہدہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سچے، سُچے اور پاکیزہ عقیدے کا منہ بولتا بیان ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

اس حدیث پاک سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ:

(1) حضور ﷺ نے انبیاء کرام علیہم السّلام اور ان کے اُمتیوں کے ساتھ ساتھ اپنی تمام اُمت کو ملاحظہ فرمایا۔اس میں قیامت تک کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے گویا حضور ﷺ تمام لوگوں کے عقائد ونظریات، اعمال وافعال وغیرہ ان کے سب حالات وکیفیات سے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور یہ آگاہی محض اندازے کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہے اور مشاہدہ بھی ایسا کامل اور واضح کہ آپ ﷺ نے ان اُمتیوں میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب غلاموں کے چہروں کی چمک تک بھی ملاحظہ فرمائی۔

(2) کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کہا کہ حضور ﷺ! آپ کیا جانیں؟ آپ کو تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں (معاذ اللہ) بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان ستر ہزار افراد کے تعین کے لئے قیاس آرائیاں کرنے اور حضور ﷺ سے ان کے بارے میں سوال کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عقیدے کی وضاحت بھی ہوگئی کہ حضور ﷺ کو تمام لوگوں کے اعمال وافعال، ان کے انجام اور اُخروی مقام کا یقینی علم حاصل ہے ورنہ ان قیاس آرائیوں اور ان ستر ہزار افراد کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب ومحل؟

(3) ضمناً یہ بھی کہ حضرت عکاشہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہما نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارہ گاہ میں دعا کرنے کی بجائے حضور ﷺ سے دعا کے لیے التجا کی اس لیے کہ وہ آپ ﷺ کو دعاؤں کی قبولیت اور مُرادوں کی برآری کے لیے وسیلۂ عظمیٰ جانتے تھے حالانکہ رب ان کی بھی شاہ رگ سے زیادہ قریب تھا اور ان کی بھی پکار سننے والا تھا مگر وہ شریعت اور صاحب شریعت کے مزاج شناس تھے۔انہوں نے اپنے اعمال ہی پر تکیہ کرنے کی بجائے حضور ﷺ کو وسیلہ بنا کر ہمیشہ کے لئے سچے عقیدوں کی راہیں واضح کر دیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضور ﷺ کے خاص راز دار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

آب آخر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اُسد الغابہ میں ہے کہ ان کا نام اس طرح لیا جاتا ہے، حذیفہ صاحب سِرِّ رسول اللہ ﷺ فی المنافقین ،یعنی منافقین کے بارے میں حضور ﷺ کے خاص راز دار۔ حضور ﷺ نے اپنے اس پیارے جانثار صحابی رضی اللہ عنہ کو کیا کچھ بتایا تھا اور حضور ﷺ کے غیبی علوم کے بارے میں ان کا کیا اعتقاد تھا، اس کے لئے درج ذیل احادیث پاک کا مطالعہ کیجیے۔

235- حضرت ابوادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بخدا میں اب سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہر فتنے کو تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں اور میرا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہی حال تھا کہ آپ ﷺ نے مجھے راز کی وہ باتیں بتائیں جو میرے علاوہ اور کسی کو نہیں بتائیں۔ ایک دن ایک مجلس میں آپ ﷺ فتنوں کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اس مجلس میں میں بھی حاضر تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فتنوں کو گنتے ہوئے فرمایا: تین فتنے ایسے ہیں جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح ہیں، بعض فتنے چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے علاوہ اس مجلس کے تمام شرکاء اب فوت ہو چکے ہیں۔ ﴿مسلم کتاب الفتن 2/390﴾

236- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کی خبر مجھے رسول اللہ ﷺ نے دی ہے اور کوئی شے ایسی نہیں جس کے بارے میں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال نہ کیا ہو البتہ میں نے آپ ﷺ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کیا چیز مدینہ سے نکالے گی؟ ﴿مسلم کتاب الفتن 02/390﴾

237- حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں واقعہ جرعہ کے دن آیا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا: آج تو یہاں بہت خونریزی ہوگی۔ اس شخص نے کہا: بخدا ہرگز نہیں: میں نے کہا: خدا کی قسم! کیوں نہیں ہوگی؟ اس شخص نے کہا: بخدا ہرگز نہیں، میں نے

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

کہا: خدا کی قسم! کیوں نہیں ہو گی؟ اس شخص نے کہا: بخدا ہرگز نہیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے جو آپ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمائی۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا: آج تک میرے پاس بیٹھنے والوں میں تم سب سے بُرے آدمی ہو۔ میں تمہاری مخالفت کر رہا تھا حالانکہ تم نے اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے حدیث سنی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے منع کیوں نہیں کیا؟ پھر میں نے سوچا، اس غصہ سے کیا حاصل ہے؟ میں نے مڑ کر اس شخص کی بابت سوال کیا تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ﴿مسلم کتاب الفتن 02/391﴾

ان احادیث پاک سے واضح ہوا کہ حضور ﷺ کو قیامت تک ہونے والے تمام فتنوں اور حالات وواقعات کا پورا علم حاصل تھا اس لیے کہ علم کے بغیر خبر کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے جسے مناسب سمجھا اور جتنا مفید جانا، اس علم میں سے حصہ عطا کیا۔ آپ ﷺ کی اس سخاوت وفیاضی کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا...... وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ...... کہ وہ پیارے محبوب ﷺ تو غیب بتانے میں بخل کرنے والے نہیں۔

238- خود حضور ﷺ نے بھی فرمایا...... اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّ اللّٰهُ يُعْطِيْ...... میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔

﴿بخاری کتاب العلم باب من یرد اللہ خیراً ج1 ص17، کتاب الجهاد باب فانّ للہ خمسهٗ﴾

ان احادیث پاک میں آپ نے اللہ کی عطاؤں کی فراوانی بھی دیکھی اور حضور ﷺ کی تقسیم کا نظارہ بھی کیا۔ حضور ﷺ تو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب جانتے ہی تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے ان غلاموں کی نگاہوں سے بھی سب حجابات اٹھا کر انہیں بھی دانا و بینا بنا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی کو دیکھ لیجیے کہ حضور ﷺ کی تلطفِ فیض اثر سے آپ رضی اللہ عنہ سینوں کے اندر چھپے ہوئے ایمان ونفاق کو ایسے جاننے والے تھے کہ اُسد الغابہ کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے۔ اگر وہ اس کی نماز میں شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاتے اور اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک نہ ہوتے تو خود بھی نہ جاتے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

سُوئے منزل......سُوئے مدینہ

تعظیمِ رسول ﷺ......معرفتِ توحید کا ذریعہ

یوں تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی مظہر ہے تاہم انسان اس وحدہٗ لاشریک کا بہترین شاہکار اور اس کی صناعی کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ جمالِ خداوندی کا عکس اور اس کی صفات کا آئینہ ہے۔ اس کا بولنا، سننا اور اس کا دیکھنا ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا اظہار اور جلوہ ہے اور پھر اس کے پسندیدہ اور خاص بندے، اس کے انبیاء و رُسل علیہم السلام تمام کائنات اور کائنات کی تمام مخلوقات کے حسن و جمال کے جامع ہوتے ہیں۔ ان کی سماعت و بصارت اور ان کا فکر و تدبر غرض ہر صفت پورے جوبن اور درجہ کمال پر ہوتی ہے۔ ان کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی خاص دلیل اور خاص نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں اپنی عظمتوں کی ان نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی تعظیم کرنے کو دلوں کا تقویٰ قرار دیا ہے۔ ﴿سورۃ الحج:32﴾

ان انبیاء و رسل علیہم السلام میں ہمارے حضور، تاجدارِ مدینہ، سرورِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ ﷺ تمام انبیاء کے سردار اور ان کی تمام خوبیوں اور حسن و جمال کے حامل و جامع ہیں۔ آپ ﷺ کی ہر ادا اور ہر صفت صفاتِ خداوندی کا ایسا صاف و شفاف آئینہ ہے کہ جس نے بھی آپ ﷺ کی صفتوں کی عظمت تسلیم کی، وہ معرفتِ خداوندی کا کمال پا گیا۔ ایسے ہی خوش نصیب کے لیے فرمایا گیا:

مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ﴿ترمذی﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

240- بخاری شریف کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے...... میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قُرب حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ میری پناہ پکڑے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔

﴿بخاری کتاب الرقاق باب التواضع 02/963﴾

یعنی اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے کا دیکھنا، سننا، چلنا اور پکڑنا سب تائید خداوندی سے ہوتا ہے۔ اس کی سماعت و بصارت اور اس کا علم و اختیار غرض اس کی ہر صفت دوسروں سے ممتاز اور جدا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے کان وہ آوازیں سن لیتے ہیں جو دوسرے نہیں سن سکتے۔

خود سوچیے! جب ایک کامل مومن کی یہ شان ہے تو جن کے صدقے مومن کو ایمان اور یہ مقام حاصل ہوا، ان کی کیا شان ہو گی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے محبوب اور سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے قریب ہیں۔ ان کی سماعت و بصارت علم و اختیار کے کیا کہنے۔ خود نماز سے پہلے اپنے غلاموں سے فرمایا: کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جانب قبلہ ہی دیکھتا ہوں۔ جبکہ اللہ کی قسم، مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع پوشیدہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی پشت پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

﴿بخاری کتاب الصلوٰۃ باب عظۃ الامام الناس 1/59﴾

آپ ﷺ سے نہ فرشتے اوجھل، نہ جنت مخفی، نہ جہنم پوشیدہ۔ آپ ﷺ نے ہزاروں میل کے فاصلوں کی خبریں بھی دیں اور ہزاروں سال بعد کے زمانوں کی خبریں بھی دیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

الغرض حضور ﷺ کو قادر و قدیر رب تعالیٰ نے ایسے حواس وقویٰ اور صفات واعضاء سے نوازا ہے کہ آپ ﷺ کی نظیر و مثال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

جس طرح عمارت کی خوب صورتی سے کاریگر کی مہارت اور کتاب کی تحقیق سے مصنف کی علمیت کا پتہ چلتا ہے اس طرح جب کوئی انصاف اور محبت کی نظر سے آپ ﷺ کی شخصیت، آپ ﷺ کی سماعت و بصارت اور آپ ﷺ کے علم و آگہی کا مطالعہ کرتا ہے تو پکار اُٹھتا ہے کہ جب ان کا دیکھنا ایسا ہے تو ان کے خالق و مالک کا دیکھنا کیسا ہوگا۔ جب ان کا سننا ایسا ہے تو ان کے خالق و مالک کا سننا کیسا ہوگا۔ یُوں آپ ﷺ کی شخصیت اور آپ ﷺ کی صفتوں کی عظمت تسلیم کرنے والا خدا تعالیٰ کی معرفت و قربت حاصل کر لیتا ہے۔

مگر تمام لوگوں کے رویے ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ بعض ان عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو بعض ایں وآں کے ہیر پھیر سے ان عظمتوں کو تسلیم کرنے والوں پر شرک کے فتوے داغ داغ کر اپنے اندر کی آگ کو ہوا دیتے ہیں۔

http://t.me/Tehqiqat

انصاف سے بتایئے، کیا اس سے عقیدۂ توحید کی دولت ہاتھ آئی یا شرک کا دروازہ کھلا؟

میرے محترم! یہاں تو شرک کی تمام جڑیں کٹ گئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ﷺ کی عبادت بھی روا رکھی جاتی تو یقیناً شرک ہوتا۔ آپ ﷺ کے علم و اختیار کو مقدار و نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے علم و اختیار کے برابر قرار دیا جاتا تو یقیناً شرک ہوتا۔

اس سلسلے میں بار بار بالوضاحت عرض خدمت ہے......

(1) اللہ تعالیٰ خالق ہے اور آپ ﷺ مخلوق ہیں۔

(2) اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ذاتی ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور آپ ﷺ کی تمام صفتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور آپ ﷺ اپنے رب تعالیٰ کے محتاج ہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ کا علم و اختیار اور دیگر تمام صفتیں ازلی و ابدی اور مستقل ہیں اور آپ ﷺ کی تمام صفتیں حادث ہیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

(4) اللہ تعالیٰ کا علم واختیار ایسا وسیع ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے لیے جتنا بھی وسیع علم واختیار تسلیم کر لیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ کے علم و اختیار کے مقابلے میں وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو ایک بوند پانی کے کئی کروڑ ویں حصے کو بے کنار سمندر کے مقابلے میں حاصل ہوتی ہے۔

اب بتایئے، اتنے فرق کا اعتقاد رکھنے کے باوجود مساوات کا الزام دینا عجیب جرأت نہیں تو کیا ہے؟ جس کی بات کرنی ہو، اُس کا اعتقاد تو اُسی سے دریافت کرنا چاہیے۔ جب ذمہ دار علماء اور معتبر کتابیں موجود ہیں تو اپنی طرف سے دوسروں کا اعتقاد فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا ریت پر محل تعمیر کرنا کوئی عقل مندی ہے؟

شرک کا معاملہ شریعت کا نازک ترین مسئلہ ہے۔ ایسے نازک مسئلہ پر ایسا غیر تحقیقی اور غیر محتاط رویہ اختیار کرنے سے جتنا بھی گریز کیا جائے، کم ہے۔

میرے آقا ﷺ کے اُمتی کہلانے والو، میرے آقا ﷺ کا کلمہ پڑھنے والو! حضور ﷺ کی ذات کو متنازعہ نہ بناؤ۔ آپ ﷺ تو مرکزِ کائنات ہیں، آپ ﷺ کے دامن کرم سے وابستہ رہ کر ہی مرکزیت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ آپ ﷺ کی ذات اصلِ کائنات ہے، حقیقی زندگی حاصل کرنے کے لئے آپ ﷺ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ ﷺ جانِ ایمان ہیں، اگر اپنے دلوں کی دنیا شاد و آباد رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو حضور ﷺ کی محبت و عقیدت سے لذت آشنا کرو۔ آپ ﷺ کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ اسی کا نام مرکزیت ہے، اسی کا نام حیات اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی جذبے سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اسی رویئے سے ابدی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ یہ جذبہ حاصل نہ ہو تو عبادت سے طاعت کا ثواب نہیں، منافقت کا عذاب ملتا ہے۔ یہ رویہ اختیار نہ کیا جائے تو کامیابی کے ہار نہیں، ناکامی کے طوق پہنائے جاتے ہیں۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

مسلمانو! اگر ذلت و رسوائی سے نجات حاصل کر کے عزت و عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ محبت و عقیدت اور ادب و احترام کا تعلق بہتر اور مضبوط بنانا ہوگا۔ نماز، روزے کی اہمیت مُسلّم، طاعت و ریاضت کی فضیلت بجا مگر تمام اعمال کی بنیاد حضور ﷺ کی محبت و عقیدت اور آپ ﷺ کی تعظیم و تکریم پر اُستوار کرنا اولین ضرورت ہے۔ یہی عمل کی اساس ہے، یہی تبلیغ کا مرکزی نکتہ اور اسی پر نجات کا مدار ہے۔

۔۔۔ خدارا اپنا تعلق بہتر بناؤ، اپنے عمل اور اپنی تبلیغ کا جائزہ لو اور اپنی نجات کی فکر کرو۔ مجھے تسلیم ہے کہ پختہ عادتیں اور پرانی رفاقتیں بدلنا آسان نہیں ہوتا مگر عادتوں کی برائی اور رفاقتوں کی ہلاکت سے بچنے کے لئے اپنی ہمت، اپنی توانائی، اپنے فکر اور اپنے عمل سے جتنا بھی کام لینا پڑے، دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ کی آسانی اور کامیابی کے لئے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مقام پر ایک مخلصانہ مشورہ ہے۔ مفید لگے تو ضرور آزمانا:

ہمیں اپنی دوستی اور اپنی عقیدت کا از سرِ نو جائزہ لینا چاہیے پورے انصاف اور پوری دیانت داری کے ساتھ جس کی دوستی اور رفاقت سے حضور ﷺ کے ادب واحترام اور آپ ﷺ کی تعظیم و تکریم کے جذبے پروان چڑھیں، صرف وہی دوستی اور رفاقت برقرار رکھنے میں فائدہ ہے اور وہ محفل جہاں آنے جانے سے، وہ شخص جس کے ساتھ میل جول رکھنے سے اور وہ کتاب جس کا مطالعہ کرنے سے حضور ﷺ کا ادب واحترام مجروح ہو، اس محفل کا ایک ایک لمحہ کالا ناگ ہے، اس شخص کی ایک ایک بات تیز تلوار اور اس کتاب کا ایک ایک حرف زہرِ قاتل ہے۔ ایمان بچانے کیلئے کالے ناگ، تیز تلوار اور زہرِ قاتل سے بچنا ہوگا۔

ہوشیار رہنا، ایسی محفل کے مصنوعی تقدس، ایسے شخص کی مصنوعی شرافت اور ایسی کتاب کے مصنوعی حسن کے باعث احتساب اور جائزے کا عمل مشکل تر ہو جاتا ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

احتساب اور جائزے کے عمل میں آپ کو نہ جانے کتنی محفلیں اور کتنی عقیدتیں قربان کرنا پڑیں لیکن یاد رہے کہ فکر و عمل کی اسی قربانی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تشکیل پائی تھی۔

آؤ ان کی پیروی کرتے ہوئے راستے کی ہر دیوار گرادیں۔

اے اُٹھنے والو! اے بڑھنے والو! مدینے کا سفر......توحید کی معرفت...... جنت کی منزل مبارک ہو۔

والسّلام......

خاتمہ بالخیر

شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ

مغفرت......کی دعاؤں کا طالب

احمد رضا خاں عفی عنہ

http://t.me/Tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تعارف تحریکِ مطالعۂ قرآن

مقصد ○ ماضی ○ حال ○ مستقبل

بدعقیدگی و بدعملی، ذہنی وفکری انتشار، فحاشی وعریانی، بے راہ روی اور دین بیزاری کا سیلاب ہر گھر کے ہر فرد کی طرف جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کے تباہ کن اثرات کسی بھی ہوش منداور باشعور شخص سے پوشیدہ نہیں۔ ہر دردمند فکر مند ہے کہ اس سیلاب کا راستہ کیسے روکا جائے؟ ایمان کیسے بچایا جائے اور اخلاق کیسے سنوارے جائیں؟

بے سوچے سمجھے کوئی جو چاہے کہہ دے مگر بیماری کے صحیح علاج کیلئے بیماری کا سبب جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک بار نہیں ہزار بار غور کر لیجیے۔ ہوسکتا ہے فروعی اور ذیلی اسباب تو بہت ہوں مگر اس خرابی و بیماری کا بنیادی سبب ایک ہی ہے، کتابِ انقلاب قرآن مجید اور مصلحِ اعظم حضور محمد مصطفےٰ ﷺ سے فکری و عملی دُوری۔ دُوری بھی ایسی ہے کہ ہمارا مسٹر ہو یا مولوی، سو(100) کیا ہر ہزار میں، فقط چند کے سوا باقی سب نہ قرآن سے راہنمائی لیں اور نہ صاحبِ قرآن ﷺ کو راہنما بنائیں۔ دعوے ہیں، نعرے ہیں اور پروپیگنڈے جن میں ایک سے بڑھ کر ایک۔ بھلا دعووں، نعروں یا پروپیگنڈے سے بھی کبھی خطرات ٹلتے اور حالات سنورتے ہیں۔ خطرات کی روک تھام اور حالات کی تبدیلی کیلئے تو ایسی پُرخلوص انفرادی و اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے جو وقتی اور عارضی نہیں بلکہ بھرپور اور مسلسل ہو۔

اس جدوجہد کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے 2003ء میں چند دردمند احباب نے اللہ تعالیٰ اور اُسکے محبوب ﷺ کی حمایت ونصرت کے بھروسے پر تحریکِ مطالعۂ قرآن کی بنیاد رکھی اور المرکز الاسلامی وائلن روڈ لاہور کینٹ میں مرکزی دفتر قائم ہوا۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جدید خطوط پر قرآنی تعلیمات عام کرنا اور صحیح معنوں میں قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرنا تحریک کا بنیادی مقصد قرار پایا۔

کارکردگی:

1- لوگوں کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کے پیشِ نظر فہمِ قرآن کا نہایت آسان اور دلچسپ تعلیمی طریقہ متعارف کروایا گیا جس کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں افراد بہت کم وقت صرف کر کے گھر بیٹھے بغیر فیس قرآن مجید کا فہم حاصل کر رہے ہیں۔

2- تعلیماتِ قرآنی کے فروغ کے لیے مختلف مقامات پر اجتماعی مطالعۂ قرآن پر مشتمل دروسِ قرآن کا اہتمام کیا گیا جن میں فیصل آباد اور مرکز تحریک لاہور میں قرآن مجید کا مطالعہ مکمل ہوا اور لاہور ہی میں جامع مسجد درس بڑے میاں مغل پورہ، جامع مسجد قاسم خاں صدر کینٹ، جامع مسجد ابوبکر نقشبندیہ مین بازار قینچی اور جامع مسجد چوک دالگراں برانڈرتھ روڈ میں منتخب مطالعۂ قرآن پر مشتمل درسِ قرآن جاری رہا۔

3- عوامی تربیت کیلئے دیگر پروگراموں کے علاوہ گزشتہ سالوں میں رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا گیا۔

4- افرادِ معاشرہ میں دینی کتب کے مطالعہ کا شوق پیدا کرنے اور دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے عوامی لائبریریوں کے نیٹ ورک کے قیام کے سلسلے میں ابتدائی قدم کے طور پر مین بازار قینچی لاہور میں مطالعۂ قرآن عوامی لائبریری قائم کی گئی ہے۔

5- وقتاً فوقتاً اہم موضوعات پر مفید و مختصر کتابچے شائع کر کے مفت تقسیم کیے گئے۔

6- دورِ حاضر کی انسانی ضروریات و نفسیات اور ماحول سامنے رکھتے ہوئے قدیم و جدید موضوعات پر تحقیقی لٹریچر کی تیاری کیلئے سینکڑوں کتب پر مشتمل ریسرچ سنٹر قائم کیا گیا ہے جہاں نومبر 2008ء سے اہل افراد کی خدمات حاصل کر کے تحقیقی کام شروع ہے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

عنقریب آغاز کے منتظر پروگرام:

❶ علمی و تعلیمی مواد پر مشتمل ویب سائیٹ کا اجراء ❷ آن لائن دینی راہنمائی کا اہتمام

❸ ریسرچ لائبریری کیلئے مزید کتب کا حصول ❹ ریسرچ سکالرز کی تعداد میں اضافہ

❺ تحریک کے اشاعتی ادارہ/مکتبہ کا قیام

علاوہ ازیں مکمل اور طویل المیعاد منصوبہ بندی کا تفصیلی خاکہ بھی تحریراً تیار ہے اور دلچسپی رکھنے والے احباب کو برائے ملاحظہ وتبادلۂ خیال پیش کیا جا سکتا ہے۔

قارئین محترم! جذبے، لگن، صلاحیت اور منصوبہ بندی کی اہمیت اپنی جگہ مگر اہل افراد کی دستیابی اور مالی وسائل کی فراہمی کے بغیر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ کے سوا کیا ہے؟

آپ جانتے ہیں کہ ہماری مساجد میں تعلیم و تعلّم پر کتنا وقت اور سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور محراب و مینار اور در و دیوار کی شیشہ گری و میناکاری پر کتنے سال لگتے اور کتنا مال خرچ ہوتا ہے۔

جہاں اہلِ علم غیر علمی مشاغل پر مطمئن ہوں اور اہلِ دولت کے کثیر وسائل مروّجہ محافل، نذرانوں، مزارات کی تزئین و آرائش، عرسوں، سوئم و چہلم وغیرہ پر ترجیحاً خرچ ہوں وہاں درسِ قرآن و حدیث، تعلیم و تعلّم، لائبریری، کتاب وغیرہ کے سلسلے کیا فروغ پائیں گے۔

تحریکِ مطالعۂ قرآن کو بھی اپنی علمی کتب کی طباعت و اشاعت، ریسرچ لائبریری کی کتب میں اضافے، ریسرچ سکالرز کی تعداد میں توسیع اور اپنے دیگر علمی منصوبہ جات کی تکمیل کے لیے اسی مشکل کا سامنا ہے۔

آپ علماء ہوں یا مشائخ، تاجر ہوں یا ملازم، افسر ہوں یا ماتحت، سیاست دان ہوں یا عسکری، امیر ہوں یا غریب......سب سے یہی درخواست ہے کہ......

آگے بڑھیے !!! اور تحریک مطالعۂ قرآن کا پاکیزہ پروگرام ہر سُو عام کرنے کے لیے اپنے علم و تجربہ، اپنے وقت، اپنے مال اور اپنی محنت کے ذریعے ہمارا ساتھ دیجیے۔

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

معاونت کی عملی صورتیں:

1- اہلِ علم درسِ قرآن وحدیث کے فروغ اور تحقیق وتحریر کیلئے اپنا وقت عنایت فرمائیں۔

2- اہلِ ثروت لائبریریوں کے نیٹ ورک اور کتابوں کی تعداد میں توسیع، ریسرچ سکالرز کی تنخواہوں، کتابوں کی طباعت واشاعت، تعلیم وتربیت کے پروگراموں کے انعقاد و اہتمام، اخباری اشتہارات اور ماہانہ اخراجات کے لیے دل کھول کر مالی معاونت کریں۔

3- تحریکِ مطالعۂ قرآن کی کتب کی اشاعت کے لیے عطیات دے کر بھی آپ علم کے فروغ میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔

4- چوں کہ اِن کتب کی آمدن شعبۂ تحقیق کی خود کفالت اور شعبۂ طباعت واشاعت کے قیام واستحکام کا ایک ذریعہ ہے اس لیے احباب میں تقسیم کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کتب خرید کر ہماری اِن کوششوں میں معاونت کر سکتے ہیں۔ یہ علمِ دین کی خدمت بھی ہے اور اپنے پیاروں کے ایصالِ ثواب کا بہترین دائمی ذریعہ بھی۔

کاش! اپنے سارے مالی وسائل غیر علمی کاموں پر خرچ کر دینے والے احباب بھی علمِ دین کی تبلیغ واشاعت کی ضرورت وفضیلت جان لیں۔

---------------- حدیثِ رسول مقبول ﷺ ----------------

حضور ﷺ نے فرمایا: اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ اَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُوْ لَهٗ...... جب ابن آدم فوت ہوتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اُٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔

﴿مسلم کتاب الوصیة باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته﴾

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

تحریک مطالعۂ قرآن کی کتب کی نمایاں خصوصیات

تحقیقی مواد — مستند حوالے — آسان اسلوب — مہذب انداز

عظمتِ قرآن کا ایک اہم باب

لفظِ قرآن کی معنوی تحقیق
پروفیسر احمد رضا خاں

اہلِ علم اور عوام کے لیے یکساں مفید

مسئلۂ تقدیر اور عوامی مسائل
علامہ محمد تصدق حسین

لاجواب دلائل کا مختصر مجموعہ

ہم میلاد کیوں منائیں؟
پروفیسر احمد رضا خاں

گستاخِ رسول کی سزا اور فقہاءِ احناف
علامہ محمد تصدق حسین

یزید... حدیث و تاریخ کے آئینے
پروفیسر احمد رضا خاں

http://t.me/tehqiqat

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

قرآنی تصوّرات
کے آسان فہم پر مشتمل
مفید کتابیں



http://t.me/Tehqiqat

آسان مطالعہ قرآن کورس
بذریعہ خط و کتابت
دلچسپ | سوالاً جواباً
گھر بیٹھے | بلا معاوضہ

تحریکِ مطالعہ قرآن

المرکز الاسلامی وحدت روڈ لاہور 0300-4196823, 0322-4280455
E-mail: tm.quraan@yahoo.com

پرنٹرز: جے ایم آرٹ پریس 0302-4329566

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari